

صوبائی اسمبلی شمال مغربی سرحدی صوبہ

اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی چیئرمین پشاور میں بروز سنیچر مورخہ 22 فروری 2003ء بمطابق 20 ذی الحجہ

1423 ہجری صحیح گیارہ بجے منعقد ہوا۔

جناب سپیکر، بخت جہان خان مسند صدارت پر متمکن ہوئے۔

تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

(ترجمہ): اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس
مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس
کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے
بچالیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی
ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے
یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے

کے بعد ایک دوسرے سے (خلاف و) اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ وَأَخِرُ الدَّعْوَانَا أَنْ أَلْحَمَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

جناب سپیکر: جناب سراج الحق صاحب۔

جناب سراج الحق {سینیئر وزیر (خزانہ)}: میں سب سے پہلے، کل جو کوہاٹ میں سانحہ ہوا ہے اور بارشوں کی وجہ سے صوبہ سرحد میں جتنی بھی اموات ہوئی ہیں، کے لئے ایوان سے درخواست کرونگا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر ہم ان سب کے لئے اجتماعی طور پر دعا کر لیں گے تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں کہ سنت کے مطابق سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔

جناب سپیکر: اس کیساتھ، ظفر اعظم کے بہنوئی بھی انتقال کر گئے ہیں، انہیں بھی دعا میں شامل کر لیں، اس دوران جتنے بھی وفات پانچکے ہیں، سب کو شامل کر لیں۔

سینیئر وزیر (خزانہ): سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، شریعت کا حکم ہے۔ ان سب کے لئے دعا فرمائیں۔ الھم الغفرھا، والرحمھا، ولا تعذبھا۔ خدایا! خومرہ چچی وفات شوی دی، پہ دی سانحہ کبنی چچی خومرہ شہیدان شوی دی، تہ د تولو مغفرت نصیب کچی او چچی خومرہ پسماندگان ئے پاتپی شوی دی، هغوی تہ صبر او استقامت ورکچی۔ پہ دی باران کبنی چچی خومرہ کورونہ Damage شوی دی او خلق پکبنی مرہ شوی دی، خدایا پاکہ د هغوی مغفرت نصیب کچی او دعا او کچی چچی زمونر دا وطن او زمونر دا صوبہ د نور و آفتونو نہ او مصیبتونو نہ او د مشکلاتو نہ پہ امان کری۔ و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

ڈاکٹر محمد سلیم: پوائنٹ آف آرڈر! محترم سپیکر صاحب۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: شیر احمد بلور صاحب! میرے خیال میں دو ممبران، معزز اراکین۔۔۔۔۔

جناب بشیر احمد بلور: میری صرف عرض یہ ہے کہ میں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا۔۔۔۔۔

حلف وفاداری رکینیت

جناب سپیکر: میں آپ کو وقت دونگا جیسا کہ انہوں نے فرمایا لیکن یہ حلف ہو جائے۔

I welcome Maulana Muhammad Idrees MPA elect and Mr. Israrullah Khan Gandapur MPA elect and request them to stand in front of their seats to take oath, please.

مولانا محمد ادریس: جناب سپیکر صاحب! زہ خیل حلف پہ پبنتو کبنی اغستل غوارم۔

جناب سپیکر: بس، تاسو به بیا وروستو واخلئ۔

(اس مرحلہ پر نو منتخب رکن جناب اسرار اللہ گنڈاپور نے حلف اٹھایا)

(حلف نامہ ضمیمہ پر ملاحظہ ہو)

جناب سپیکر: مولانا محمد ادریس صاحب!

(اس مرحلہ پر نو منتخب رکن مولانا محمد ادریس نے پشتو میں حلف اٹھایا)

(حلف نامہ ضمیمہ نمبر 1 پر ملاحظہ ہو)

جناب زرگل: پوائنٹ آف آرڈر، سر!

جناب سپیکر: معزز اراکین اسمبلی! چا چپی اوس حلف واغستو، مولانا محمد ادریس او اسرار اللہ گنڈاپور صاحب ته خواست دے چپی د سیکرٹری صاحب په میز باندي رجسٹر پروت دے چپی په هغی باندي دستخط او کړی۔

(اس مرحلہ پر نو منتخب اراکین نے حاضری رجسٹر پر اپنے دستخط ثبت کئے)

اراکین کی رخصت

جناب سپیکر: معزز اراکین کی طرف سے رخصت کی درخواستیں، ان معزز اراکین اسمبلی نے رخصت کے لئے درخواستیں ارسال کی ہیں، اسمائے گرامی ہیں: جناب عتیق الرحمان صاحب، ایم پی اے، جناب ظفر اعظم صاحب، لاء منسٹر، جناب اختر نواز خان، ایم پی اے، مسماۃ ریحانہ اسماعیل صاحبہ، جناب قاضی محمد اسد صاحب، ایم پی اے اور یاسمین خان صاحبہ کی آج کے لئے رخصت کی درخواستیں بغرض منظوری ایوان کو پیش کرتا ہوں۔

(تحریک منظور کی گئی)

Mr. Speaker: Leave is granted.

مسند نشین حضرات کی نامزدگی

Mr. Speaker: 'Panel of Chairmen': In pursuance of sub rule (1) of rule 14 of the Provincial Assembly of North West Frontier Province Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby nominate the following Members, in order of priority, to form a 'Panel of Chairmen' for the current session:-

1. Maulana Amanullah Haqani, MPA;
2. Mr. Iftikhar Ahmad Khan Jhagra, MPA;
3. Mr. Muhammad Ayaz Khan, MPA; and
4. Dr. Muhammad Salim, MPA.

عرضداشتوں کے بارے میں کمیٹی کی تشکیل

Mr. Speaker: 'Petition Committee': In pursuance of rule 116 of the Provincial Assembly of North West Frontier Province Procedure and Conduct of Business Rules 1988 I hereby nominate a 'Committee on Petitions' comprising of the following Members under the Chairmanship of Mr. Ikramullah Khan Shahid, Deputy Speaker:

1. Mr. Muhammad Ayaz Khan, MPA;
2. Mr. Kashif Azam, MPA;
3. Mr. Khalil Abbas Khan, MPA;
4. Mr. Qurban Ali Khan, MPA;
5. Mr. Sikandar Hayat Khan, MPA; and
6. Mr. Abdul Majid, MPA;

جناب انور کمال: جناب سپیکر صاحب! اگر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: بشیر احمد بلور صاحب!

رسمی کارروائی

جناب بشیر احمد بلور: جناب سپیکر صاحب! زہ ستا سو ڊیر مشکوریم او نن چہ ڊی کومو ممبرانو صاحبانو حلف واغستو، هغوی ته مبارک باد پیش کوم او امید لرم چہ دوئ به د صوبہ د حقوقو د پارہ او د عوامو د پارہ جدوجهد کوی۔ ټولو نه مخکینہ نن زه فنانس او سینیئر منسٹر صاحب ته، هغوی دعا هم او کره او دعا کول خوز مونبره دا ایمان دے چہ دعا کینہ ڊیر برکت وی او خداوند تعالیٰ قرآن پاک کینہ فرمائی "کوم قومونه چہ خپل حالت نه بدلوی نو خدائے پاک هم د هغوی حالت نه بدلوی"۔ زما دوئ ته دا خواست دے چہ دومره کسان شهیدان شول، لکھونو، اربونو روپو د خلقو نقصان او شو او ڊی فنانس منسٹر هم ڊی داسی یو پریکٹیکل یو اعلان د ڊی اسمبلئی کینہ او کپی ولہ چہ دومره Limited پیسہ چہ شهید شی، نو د هغی بچو د پارہ پنخوس زره روپی هیخ شی

نه دے۔ زما يقين دے او زما ايمان دے چې دا حکومت د اسلام په نوم راغلې دے او دوى به د خلقو هغه جائز، ولې چې کور پوره تباہ شى، ټول پينځه پينځه کسان په ځائې شهيدان شول، هغوى ته پنځوس زره روپۍ Per head په دې د هغوى هيڅ هم نه کيږي او زمونږ فنانس منسټر صاحب، زما يقين دے چې دے خلقو د پاره، د هغوى ټول کورونه وران شول، پنجاب هم دا فيصله کړې ده، پنجاب حکومت دا فيصله او کړله چې کوم کور په دې سيلاب او په دې بارانونو کښې تباہ شوى دے، د هغې ټول کور پيسې به صوبائى حکومت برداشت کوى، زما يقين دے چې زمونږ فنانس منسټر صاحب به مهربانى کوى چې کوم کورونه داسې د سيلاب يا د باران په وجه تباہ شوى دى، د هغې ټول اخراجات د صوبائى حکومت برداشت کړى چې هغه خلقو ته دا تسلى ملاؤ شى۔ ډيره مهربانى۔

جناب انور کمال: جناب سپيکر صاحب! که اجازت وي جى۔

جناب سپيکر جى! انور کمال خان!

جناب انور کمال: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپيکر صاحب! زه د خپلې پارټۍ، د پاکستان مسلم ليگ (ن) د طرف نه، نن په دې اجلاس کښې زمونږه دا دوه، يو برخوردار، د گندهاپور صاحب بچې دے، دوى کامياب شوى دى، دوى ته او دويم زمونږه مولانا صاحب چې د ايم ايم اے سره تعلق لري، هغوى کامياب شوى دى، زه د خپلو ملگرو د طرف نه، د خپلو ممبرانو د طرف نه او د پارټۍ د طرف نه دې دواړو کسانو ته د زړه د اخلاصه مبارکباد ورکوم۔ مهربانى۔

جناب سپيکر: ډاکټر سليم صاحب۔

ډاکټر محمد سليم: محترم جناب سپيکر صاحب! دنن نه يو څو ورځې مخکښې چې دا زيات بارانونه وو، نو زمونږ په صوبائى ضلع کښې 'منصبدار' نومې يو کلي دے، په هغې کښې يو سکول خونه، خو خوا کښې ورسره جماعت وو، سکول کښې چت راڅخيدو، ماشومان ترې جماعت ته لاړل او جماعت شهيد شو۔ په هغې کښې يو کس مړ وو او ديارلس، څوارلس پکښې زخميان وو او نور هم پکښې گنډ کسان معمولى زخميان شوى وو۔ نو زه يوه خبره، د چيف منسټر

صاحب او د وزیر تعلیم صاحب توجہ دې طرف ته راگرځول غواړمه چې زمونږد صوبه سرحد د سکولونو حالت ډیر خراب دې۔ زمونږد صوبه سرحد سکولونه داسې دی چې لکه د میر تقی میر کوروی چې هر ځایي ئے راڅاڅی۔ بھر باران کم وی او دننه زیات وی۔ نوزہ وایم چې د نوی سر نه، د دې ټولو سکولونو، یواځې د صوابی ضلعې نه، د دې سالم صوبه سرحد د سکولونو سروې د اوکړې شی۔ کوم بلډنگونه چې خراب دی، د هغې د مرمت انتظام د اوکړے شی او د صوابی باره کښې خو دا وایم چې دا کوم سکول هلته کښې دے، هغه دوباره د مرمت نه دے۔ زه دا وایم چې دغه شته سکول د بالکل ختم کړے شی، د نوی سر نه د هلته سکول جوړ کړے شی، ورسره خوا کښې گراؤنډ دے، هلته د جوړ کړے شی او ورسره ورسره چې کوم کس شهید شوی دے، پنځوس زره خو حکومت اعلان کړے دے خو پنځوس زره ډیرې لږې دی نو دا د لږې سیوا کړی او د دې نه علاوه چې کوم زخمیان دی، هغوی له ئے لس لس زره روپې ورکړے دی، دیکښې د هم اضافه اوکړے شی او زه دا خبره هم کوم چې ما خو دا خبرې په دې ځایي اوکړې، د دې نه مخکښې هم ممبر پاتې شوې یم خو اکثر چې کومې خبرې په اسمبلی کښې اوشی، هغه هم دغسې پاتې شی۔ هغه یو شاعر وائی هسې نه هغه قصه اوشی:

آه کوچاپیئے اک عمر اثرهونے تک کون جیتاھے تیرے زلف کے سرهونے تک
(نعره ہائے آفرین)

جناب سپیکر: تھینک یو۔ ڈاکٹر سلیم خان صاحب!۔۔۔۔۔

محترمہ رفعت اکبر سواتی: مسٹر سپیکر سر!۔۔۔۔۔

ڈاکٹر محمد سلیم: آخره کښې زه اسرار اللہ خان گنډا پور صاحب ته مبارکی ورکوم چې دوی کامیابی حاصله کړې ده، آزاد دے او مولانا صاحب ته دوه مبارکئ ورکوم چې یو خو هغوی کامیابی حاصله کړه او دویم حلف ئے پښتو کښې اوچت کړو۔ نو دواړو ته مبارکی ورکومه۔

جناب عبدالاکبر خان: شکریه۔ جناب سپیکر، سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے دو معزز اراکین نے الیکشن جیتنے کے بعد آج جو حلف اٹھایا ہے، ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور جناب

والا، دوسرا جو بلور صاحب نے بات کی۔ میرے خیال میں گزشتہ دنوں کافی بار شیئیں اس صوبے میں ہوئی ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک ایک ممبر اس پر بولے تو اگر ایک ایڈجرمنٹ موشن اس کے لئے Move کی جائے اور اس کو Admit کر کے سارے ہاؤس میں، جس ممبر کے حلقے میں بھی کچھ نقصان ہوا ہے، اس پر تفصیل سے بحث کر کے پھر اس کے لئے ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے کہ کتنے پیسے دینے چاہیے، کتنی امداد دینی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں بار شیئیں سارے صوبے میں ہوئی ہیں اور میرا حلقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ ہر ایک ممبر کا حلقہ متاثر ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک ایک حلقے کے لئے، تو میرے خیال میں اگر اس کے لئے Adjournment Motion Move کر کے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: ابھی تک تو موصول نہیں ہوئی ہے۔

جناب عبدالاکبر خان: نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ میری Suggestion ہے۔

جناب سپیکر: نہیں، آنا چاہیے تھا، جمشید خان صاحب!

جناب جمشید خان: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکریہ، جناب سپیکر! د دی بار انونو پہ حوالہ باندی زہ دا عرض کوم چہ نن پہ اخبار کنبی، چہ دا کوم وفات شوی دی، د هغوی نومونه راغلی دی، پہ بونیر کنبی چہ کوم کسان مرہ دی، زما د حلقہ چہ کوم کس مر دی، د هغه نوم پکنبی نہ دی راغلی چہ دغه ہم پکنبی شامل شی۔ یو دا تکلیف مونبرہ تہ پیس شومے دے چہ مونبرہ د باقی علاقہ نہ کت شوی یو، هلته یو تریکٹر ولا روی او Causeway washout شوپ دہ خلور پینخہ کالہ مخکنبی، پنخوس روپی د گا دی نہ اخلی، هغه پوریباسی او بیائے راپوریباسی۔ نوکہ سپری سرہ مریضہ زنانہ وی یا نور خہ تکلیف وی، ماشومان ہم سکول تہ نہ شی راتلہ۔ زہ دا درخواست کوم صوبائی حکومت تہ چہ کہ فرض کرہ زمونبرہ ضلعی حکومت باندی خہ داسی طریقہ استعمالولی شی چہ دغه د "کوگا" دا کازوے چہ دے، چہ دا خواه مخواه جو رہ کرہ شی خکہ چہ یواخی نہ، دوه علاقہ دیوبل نہ کت کیری، بلکہ د اسلام آباد او د پینبور رابطہ ہم زمونبرہ نہ کت کیری۔ زما بہ وزیر بلدیات تہ دا درخواست وی چہ کہ فرض کرہ پہ صوبائی سطح باندی دا نہ شی کیدی، د دومرہ لویو پیسو خبرہ نہ دہ، مقامی حکومت تہ د درخواست او کیری چہ دا کازوے د "کوگا" پہ مقام باندی

جورہ شی خکہ چپی پینخہ شپیر کالہ اوشو، ہم د غسپی پرتہ دہ او ډیر لوئے تکلیف
دی او دا کوم کسان، کورونہ پکبنی تباہ شوی دی چپی د هغوی د کورونو د
جورولو انتظام اوشی او تولو له معاوضی ورکری۔

جناب سپیکر: رفعت اکبر سواتی صاحبہ! پھر وہ گلہ کریں گی کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔

محترمہ رفعت اکبر سواتی: شکریہ، سپیکر صاحب۔ آزیبل مسٹر سپیکر سر! میں آپ کی بڑی مشکور ہوں کہ
آپ نے خواتین کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ تو دے ہی دی ہے۔

جناب سپیکر: نہیں، میں نے تو۔۔۔۔۔

محترمہ رفعت اکبر سواتی: اصل میں بات یہ ہے کہ، نہیں، زور سے ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے، پیار اور
خلوص سے لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف دلانا
چاہتی ہوں۔ As a matter of fact میں نے اس کے لئے ایک Call Attention Notice بھی
جمع کروایا ہوا ہے لیکن اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ٹائم Bomb پر یا کسی
Dynamite پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض محکموں میں ایسی Situations ہو رہی ہیں، جن پر توجہ دینی
ہمارے سینئر منسٹر، ہمارے ایجوکیشن منسٹر بلکہ ویمن ڈیولپمنٹ منسٹر جو ہیں اور آپ بھی، پلیز ہمارے ساتھ
تعاون کیجئے یہ جو توجہ میں دلا رہی ہوں، ہمارے مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت گرلز
پرائمری ایجوکیشن کے لئے کوئی Edible oil آیا، تقریباً 16,919 کاٹن Edible oil ہے۔ تو جیسے کہ
میں، سینئر منسٹر صاحب سے بھی آج بات کر رہی تھی کہ Oil کو آئے ہوئے بھی ایک سال ہو چکا ہے اور
ٹائم پیریڈ جو Edible oil کا ہوتا ہے وہ ایک سال، چھ مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ
ہمارے پاس صرف چھ مہینے رہ گئے ہیں اور تعداد ذرا آپ دیکھئے، 16,919 کاٹن، اب Situation ایسی
ہے کہ جوان سکولوں میں یہ تیل جانا چاہیئے تھا، وہاں نہیں گیا۔ کس وجہ سے نہیں گیا؟ اس کی ان کے پاس
بہت سی وجوہات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنا Oil چھ مہینے میں ان 138 Schools کو
Distribute ہو سکتا ہے؟ یہ بارہ سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو میری سینئر منسٹر صاحب
سے بھی اور ایجوکیشن منسٹر صاحب سے Request ہے کہ میرے پاس اس پر Detailed Survey ہے
کیونکہ میں نے مانسہرہ کے District Administration کو Involve کیا ہے ہم نے ایجوکیشن

کو نسل کمیٹی کو بھی Involve کیا ہے اور ان کے ساتھ میں نے اسی جگہ کا دورہ بھی کیا، معائنہ کیا اور جب میں نے وہاں حالات دیکھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اسمبلی کے ممبرز اور اپنے Colleagues کے ساتھ اس بات کو Share کروں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں Support ملے کیونکہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی Identify کرتے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر Quick action ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کو آنا چاہیے، سیکرٹری ایجوکیشن کو آنا چاہیے اور جتنی جلد از جلد ہو یہ۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: تھینک یو، تھینک یو۔

محترمہ رفعت اکبر سواتی: ایک منٹ جی، جتنی جلد از جلد ہو، یہ کمیٹی Form ہونی چاہیے اور اس پر کام شروع ہونا چاہیے۔ شکر یہ۔

جناب سپیکر: مشتاق احمد غنی صاحب!

جناب مشتاق احمد غنی: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر! میں پاکستان مسلم لیگ (ق) کی جانب سے، آج ہمارے جو دو بھائی اس ایوان کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، انہیں مبارک باد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ ہم مل جل کر اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لئے کام کریں گے اور دوسری بات جو بشیر بلور صاحب نے حالیہ بارشوں کے سلسلے میں گورنمنٹ کو نشانہ ہی کروائی ہے۔ جناب والا! ہمارا ضلع اس سے شدید متاثر ہوا ہے اور ہمارے حویلیاں میں پانچ چھ اموات ہوئی ہیں۔ ایٹ آباد میں تین چار اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح گلیات میں اتنی شدید بر فباری ہوئی ہے کہ ابھی تک ہمیں صحیح صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا۔ لوگ گھروں میں قید ہیں اور میری یہ گزارش ہے کہ جو مولشی ہلاک ہوئے، جانی اور مالی شدید نقصان ہوا، یہ ہماری صوبائی حکومت سے گزارش ہے اور ریپبلک کمشنر یہاں پر موجود ہیں کہ وہ ان لوگوں کو معقول معاوضہ دیں، ان کی آباد کاری کا انتظام کریں اور خاص طور پر جناب، گلیات میں اس وقت بھی صورتحال بڑی خراب ہے کہ لوگ ابھی تک دور دیہاتوں میں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کیا روزگار کریں گے؟ یہ بارشیں بہت ہی زیادہ بعض جگہوں پر تباہی کا باعث بنی ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ آج پھر سارا دن بر فباری جاری رہی آج پھر بچے کسی مزدور کا بھوکا رہا۔ میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔

جناب سپیکر: مرید کاظم صاحب!

سید مرید کاظم شاہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: میرے خیال میں یہ پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے، پھر اگر ایک ایک، کیونکہ ہر ایک کے دل میں ہمدردی ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔

سید مرید کاظم شاہ: جناب سپیکر صاحب! میں اپنے دونوں بھائیوں کو، جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور، پاکستان پیپلز پارٹی (شیرپاؤ) کی طرف سے کامیاب ہوئے اور مولانا دریس صاحب، ایم ایم اے کی طرف سے کامیاب ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی (شیرپاؤ) کی طرف سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دوسرا عرض یہ ہے کہ پی اے ایف کا جو سانحہ پیش آیا، اس پر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اپنی پارٹی کی طرف سے اس ایوان کی وساطت سے ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور ایک Request ہے جی، سینیئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، جیسے بشیر بلور صاحب نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں میں جو آدمی فوت ہوئے ہیں یا مکان تباہ ہوئے ہیں، مویشی ختم ہوئے، صرف مرنے والے کے لئے پیسہ دینا، میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ کسی آدمی کا گھر تباہ ہو جائے۔ جب تک اسے بحال نہ کیا جائے، اس موجودہ دور میں جو پوزیشن ہے کہ انسان اپنے ان وسائل سے پورا نہیں ہو سکتا تو کیا وسیلہ ہوگا کہ وہ اپنا مکان بنا سکے؟ اس لئے میں جناب سینیئر منسٹر صاحب سے Request کروں گا کہ مہربانی کر کے آج یہ اعلان کریں ان کے مکانات کے لئے بھی اور یہ مال مویشی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے لئے بھی اور کم از کم پچاس ہزار ایک انسان کی زندگی کے لئے بہت کم ہے۔ پچاس ہزار پر تو بھینس نہیں ملتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں گے۔

جناب سپیکر: جناب گستاپ خان صاحب۔

شہزادہ محمد گستاپ خان (قائد حزب اختلاف): Thank you, Mr. Speaker میں جناب عنایت اللہ خان صاحب گنڈاپور کو ان کے بیٹے کی کامیابی پر اور مولانا دریس صاحب کی کامیابی پر انہیں Independent Group کی طرف سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جیسا کہ عبدالاکبر خان صاحب نے ایک تجویز دی کہ ایک ایڈجرنمنٹ موشن اس سلسلے میں آنا چاہیے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا علاقہ پہلے سے یعنی 1992 سے اب تک سیلابوں کی زد میں ہے۔

جناب سپیکر: آپ کی شخصیت شہزادہ صاحب! ایسی ہے، صوبے کی بات کریں، اپنے آپ کو Down Grade نہ کریں نا۔

قائد حزب اختلاف: نہیں، میں صوبے کی طرف آرہا ہوں، بعض ایسے علاقے ہیں، جس طرح کہ اس صوبے کے پہاڑی سلسلے ہیں، ان میں بڑے شدید نقصانات ہوئے ہیں اور پہلے بھی ہم ہاؤس کے نوٹس میں لاتے رہے ہیں۔ ہاؤس کی اس سلسلے میں متفقہ قراردادیں آتی رہی ہیں اور پچھلے سیشن میں آپ کی طرف سے یہ یقین دہانی آئی ہے اور وزیر صاحب کے نوٹس میں آپ یہ لائے تھے کہ اس سلسلے میں منسٹر پلاننگ اور فنانس بیٹھ کے ہم لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ کریں۔ کیونکہ اب جب بھی بارشوں کا سیزن آئے گا تو مزید اور نقصانات ہونگے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیزن آجائے تو اس سے پہلے ہم بیٹھ کے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔

جناب سپیکر: تھینک یو، جناب سراج الحق صاحب۔

جناب سراج الحق { سینئر وزیر (خزانہ) }: شکریہ، سپیکر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو پچاس ہزار روپے نہیں دینا ہے، ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس لئے کہ پچاس ہزار روپے واقعی اس کے کچھ کام نہیں آسکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہم نے تمام ہسپتالوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام زخمیوں کو، جو اس دوران زخمی ہو گئے ہیں حادثات کی وجہ سے، ان کا مکمل طور پر فری علاج کریں اور ان کو ریلیف دیدیں۔ تیسری بات یہی ہے کہ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں کل بھی بارشیں جاری تھیں اور ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے تو صوبائی حکومت نے تمام اضلاع سے اور ان مقامات سے نقصانات کی تفصیل جمع کرنے کے لئے کہا ہے اور یہ جتنے گھر مسمار یا Damage ہو گئے ہیں اور جتنی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور جہاں جہاں سڑکیں بند ہو گئی ہیں تو کل گورنمنٹ سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ سڑکیں کھولنے کا فوری کام شروع کر دیں۔ جہاں ٹرانسپورٹ مرز تباہ ہو گئے ہیں، جس طرح بونیئر میں تباہ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے علم میں ہے اور جس طرح جشید صاحب نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں بھی ہم خصوصی معلومات کر رہے ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تمام تفصیلات جمع ہو جائیں نقصانات کی، تو اس کے لئے ہم ان شاء اللہ صوبائی حکومت

کی طرف سے ریلیف دیں گے اور خود چیف منسٹر جناب اکرم خان درانی صاحب نے رات بھی اسی کے بارے میں مینٹنگ کی ہے اور تفصیلات تمام مقامات سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھرانوں کے لئے ان شاء اللہ ہم کما حقہ ریلیف دیں گے، جتنا ہمارا خزانہ اجازت دیتا ہے اور جتنا ہمارے بس میں ہے، ہم نے یہ پچاس ہزار تو صرف فرسٹ ایڈ کے طور پر ان کے لئے دیئے ہیں اور ان شاء اللہ اگلا مرحلہ آنے والا ہے لیکن ہمیں اتنا موقع تو دیدیں کہ ہم ساری تفصیلات جمع کر لیں اور پھر اپنا حساب کتاب کر کے۔۔۔۔

Mr. Speaker: Already Minister is on floor.

سینیئر وزیر: اچھا جی۔ باقی جو اضلاع میں نقصانات ہوئے ہیں، جو کام کرنے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بیٹھے ہیں، ان شاء اللہ وہ اس پر کر لیں گے لیکن ہم غافل نہیں ہیں، ہم نے ہسپتالوں کو بھی آرڈر دیا ہے اور پچاس ہزار روپے پہلی ایڈ کے طور پر دیئے ہیں اور باقی جب تمام تفصیلات جمع ہو جائیں گی، ان شاء اللہ تو ہم صوبائی حکومت کی طرف سے تمام مراعات دیں گے۔

جناب سپیکر: تھینک یو۔

قائد حزب اختلاف: جناب سپیکر۔۔۔۔

جناب بشیر احمد بلور: مونر خود ا ریکویسٹ کرے و وچے دوئی د مہربانی او کری، دا د اعلان او کری، خنگہ چے پنجاب حکومت کرے دے چے خومرہ کورونہ تباہ شوی دی، هغوی به بیا Rehabilitation کوی او بل دوئی دا اووئیل چے مونر پنخوس زرہ روپی و رکوؤ او مونر خدائے ته دعا کوؤ، ما مخکبني اووئیل چے دعا کبني ڍیر برکت دے خو تر خو پورې چے عملی قدم اوچت نکړے شی، دا نه شی کیدې نو په دې لړ کبني چے تر خو پورې دوئی مونر ته داسې تهوس خبره نه کوی نو مونر خو احتجاجاً واک آؤت کوؤ، په دې وجه چے هر خيز کبني خواه مخواه تکر او کیری۔

جناب سپیکر: دا ستاسو جمہوری حق دے۔

(اس مرحلہ پر حزب اختلاف کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے)

ڈاکٹر محمد ذاکر شاہ: سپیکر صاحب! پنجاب میں جہاں جہاں بھی سیلاب آیا اور بارشوں کی وجہ سے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہر حلقے میں گئے ہیں، ہم انتظار کرتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے نہیں پوچھا ہے ادھر، پانچ آدمی وہاں پر ہلاک ہوئے یا سات آدمی ہلاک ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر اللہ خان: سپیکر صاحب، جناب سپیکر صاحب، جناب سپیکر صاحب!۔۔۔۔۔
جناب سپیکر: جی، جی۔ ڈاکٹر ذاکر اللہ خان۔

ڈاکٹر ذاکر اللہ خان: ما تہ خوا اول پہ دہی واک آؤت باندہی ڊیر زیات افسوس دے او دویمہ خبرہ دا دہ چہی زمونہ پہ حلقہ پہ پی ایف 97 کبھی یو کور ہم پہ دے بارانوں کبھی، ہغی تہ ہور اولگیدو د شپہی او پہ ہغی کبھی دوہ زنانہ او پینخہ بچی مکمل طور ایرہ شول، اوسوزیدل او چہی خنگہ "خبریں" اخبار او "مشرق" اخبار، زہ د ہغوی مشکوریم چہی ہغوی پہ Front page باندہی دغہ خبر اولگوؤ او بیائے د دہی خبر سرہ سرہ زمونہ سینئر منسٹر صاحب چہی د ایم ایم اے د گورنمنٹ سینئر منسٹر دے، پخپلہ باندہی ہم ہغہ علاقہی تہ چہی ہغی تہ د بنیاد م رسائی ہم ممکن نہ دہ، ہغہ اسپنر او لیکن یو علاقہ ورتہ وائی او دوئی پخپلہ باندہی ہلتہ را اورسیدل ہغہ اسپنر تہ او ہلتہ ئے د ہغہ خلقو سرہ تعزیت ہم او کرو، د ہغوی پہ ہغہ غم کبھی ہم شریک شو او ورسرہ ئے پہ ہغہ ٹائم باندہی د دوہ لکھو روپو اعلان او کرو۔ دغہ شان ہغہ خلقو تہ ئے تینتو نہ ورکرل، کوم خائی کبھی چہی دا واقعات راغلی دی نو زمونہ منسٹر صاحبان ہلتہ رسیدلہی دی خو بہر حال لرد انتظار خبرہ دہ۔ کہ دوئی ہم لرد انتظار نہ کار اغستہی وہی نو زما یقین دہی چہی د دوئی دا مسئلہی بہ ہم پہ دغہ طریقہ باندہی حل شوہی وہی۔ زمونہ دایقین دہی چہی مونہ دہ انصاف او د حق خبرہ کوؤ نو د ہر دغہ د پارہ بہ ان شاء اللہ پہ حق او انصاف باندہی قائم یو۔ شکریہ جی۔

جناب فضل ربانی (وزیر خوراک): جناب سپیکر صاحب۔

مولانا محمد عصمت اللہ: جناب سپیکر صاحب۔

جناب سپیکر: جناب ربانی صاحب۔

وزیر خوراک: شکریہ، جناب سپیکر صاحب۔ زہ خود درخواست کوم چہ پہ دہ صوبہ کبہہ مخکبہہ ہم حکومتونہ تیر شوی دی او دلته مخکبہہ ہم سیلابونہ او طوفانونہ راغلی دی، پہ دومرہ لوئے تعداد کبہہ خلق او دومرہ Damages مخکبہہ نہ دی شوی چرتہ؟ خو خیر دے، زما دا تجویز دے چہ کوم حکومتونہ مخکبہہ دلته تیر شوی دی، د ہغہ طوفانونو ہغہ امدادونہ، د سیلابونو ہغہ امدادونہ، خلقوسرہ چہ کوم امداد دوی کرے دے، مونرہ بہ ہم ہغہ خان لہ یو معیار او گر خو او پہ دہ وخت کبہہ داسہ یوانداز اختیارول چہ ہغہ دومرہ لوئے نقصان، صوبائی حکومت بیا د برداشت کولونہ دے، پہ دہ وجہ د دوی چہ کوم حکومتونہ دلته تیر شوی دی د دہ تولو پارٹو والا، ہغہ فگرز د دلته پیش کرے شی او د ہغہ نہ پس بہ بیا دافیصلہ کوؤ چہ زمونرہ حکومت خومرہ امداد کولہ شی۔

(تالیاں)

مولانا محمد عصمت اللہ: جناب سپیکر صاحب! اصل میں بات یہ ہے کہ میں حافظ حشمت صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ پبنتو کبہہ متل کبہہ وائی چہ۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: مولانا عصمت اللہ صاحب۔

مولانا محمد عصمت اللہ: زہ خو لگیا شوہ یم۔

(قہقہہ)

جناب سپیکر: اجازت اوس ملاؤ شو۔

مولانا محمد عصمت اللہ: اچھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب سپیکر صاحب! اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اپوزیشن کے بھائی، ان میں زیادہ تر انہی جماعتوں سے اور پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ایک بار نہیں، بار بار اس صوبے میں حکومت کر چکے ہیں۔ ویسے اس کو میں معمولی بات کہوں گا کہ ان کو انکار بھی نہیں ہوا، ان کو اطمینان بھی دلایا لیکن صرف ایک نامناسب انداز میں، نامناسب انداز میں کہتا ہوں کیونکہ یہ عوام پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایم ایم اے والے آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ تاثر ہے ہم پریس کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، لوگ خود بھی

سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ یہاں اسمبلی ممبران جو ہیں، حکومتی خزانہ بھی ان کے سامنے ہے لیکن اگر ہماری ہمدردی ہے تو ہم یہ ممبران اسمبلی اپنی استطاعت کے مطابق، استطاعت بھی سب کو معلوم ہے، اگر تھوڑا تھوڑا حصہ بھی ہم سب ڈالیں تو یہ کوئی نامناسب تو نہیں ہوگا۔

جناب سپیکر: پہ بنیگرہ کبھی خوبیا نہ راخی کنہ۔

مولانا محمد عصمت اللہ: نہ نہ مناسب، دعوت الی الحق ہے، حق کی طرف بلانا ہے۔ تو اس حوالے سے میری یہ تجویز ہے کہ یہاں سے ہمارے کچھ ساتھی چلے جائیں اور اپوزیشن والوں کو مناکر واپس لے آئیں تو یہ مناسب ہوگا۔

جناب امانت شاہ: جناب سپیکر! سراج الحق صاحب دا خبرہ داسپی او کپلہ چپی " جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کو تو ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ جو متاثرین ہیں تو ان کو جو ہیں، ہم ریلیف دیں گے، ان کے مکانات کی تفصیل وغیرہ وہ جمع کر رہے ہیں"۔ نو زما چپی خومرہ خیال دے، دوئی تہ لبر وئیل غواری چپی تاسو لبر داسپی ہمدردانہ مونبرہ یو بل سرہ ان شاء اللہ العزیز چلیرو نو ہلہ بہ د صوبی د پارہ چپی خومرہ متاثرین دی تولو د پارہ چپی کوم دپی نو کارونہ کیدی شی۔ شکریہ جناب۔

قاری محمد عبداللہ: جناب سپیکر صاحب!

جناب مظفر سید: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب سپیکر: او گورئی، ہغہ راشی، اسرار صاحب، منسٹر صاحب۔

قاری محمد عبداللہ: جناب سپیکر! اچھا ہوا کچھ فرصت ہمیں بھی مل گئی ہے۔ تو اس میں اتنی بات ہے کہ واقعاً غریب لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس سلسلے میں اگر ہم اپنے سابقہ فیصلے سے کچھ زیادہ ان کو ریلیف دینے کے لئے ایک اصولی موقف اختیار کر لیں تو میرے خیال میں عوام کے ساتھ ہماری ہمدردیوں کے حوالے سے، ان کو بھی کچھ تسلی اور اطمینان ہو جائے گا۔ تو اس فیصلے پر میرے خیال میں کچھ نظر ثانی ہو جائے تو اچھا ہے۔

جناب مظفر سید: جناب سپیکر صاحب! اجازت دے؟

جناب سپیکر: مظفر سید صاحب۔

جناب مظفر سید: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ د ٲولو نه اول خو قابل افسوس خبره دا ده چې دا يو Pre-planned programme بنڪارى، ورنه د دې طرف نه خو هغوى ته تهپڪ او مناسب جواب ملاؤ شو چې مونږه كوؤ او دا مو د وس دى او نور هم ورته سوچ كوؤ خو افسوس دا دې چې سابقه روايت----

جناب سپيڪر: زما په خپل خيال هغه ٲريژرى بنچ والا ورپسې ٲلې دى، هغوى رضا كوى۔ په دې وخت دا Discussion چې دې، دا مناسب نه دې۔

جناب مظفر سید: تهپڪ شوه جى البته زه پكبنې يو بل Addition كومه، خو مياشتې وړاندې چې بل، مخكبنې د دې نه سيلاب راغلي وو او ما هم دلته داسې يو ايډجرنمنټ موشن پيش كړې وو۔ ظفراعظم صاحب ما ته يقين دهانى راكړې وه خو نه ظفراعظم صاحب راغې او نه ې هغه ريليف راغې، هغې پورې هغه اجلاس ته هم نه دے راغلي۔

جناب سپيڪر: نن هغه په هاؤس كبنې نشته۔

جناب مظفر سید: نو هغه د پكبنې ان شاء الله شامل شى۔

جناب سپيڪر: مياں ٲارگل صاحب۔

مياں ٲارگل: جناب سپيڪر! زه نن د خپل طرف نه او د پاڪستان تحريك انصاف د طرف نه دا نوى معزز اراكين چې كوم اسمبلئ ته راغلى دى، هغوى ته مباركى وركوم او عنايت الله گنډاپور صاحب ته خو سپيشل مباركى په دې وركوم چې دا خوش قسمته دے چې ځوئ ئے واک آؤٲ كړے وو او دوى ناست دى مباركى اخلى، زما خيال دې۔ (ٲهٲه) دوى ته د مبارك شى۔ حقيقت دا دے چې خوش قسمته پلار دے۔ باقى دا خبره معزز ركن چې او كړله، زه په دې باندي پاڅيدلې ووم چې ظفراعظم صاحب چې نن اسمبلئ كبنې نشته دے، نو د هغه دا مجبورى ده چې د هغه Brother in Law وفات شوه دے۔ سبا څلور بجې په لاچئ كبنې د هغه جنازه ده۔ هغه د هلته نه چې راتلو نو دا غم وونوان شاء الله تعالى هغوى به راځى خو ما ته ئے دا وئيلى وونود هغه د Brother in law په حق كبنې به دعا او كړواو باقى دا كوم واک آؤٲ چې شوې دے، سراج

الحق صاحب تہ مونبر دا سوال کوؤ چہ حقیقت دا دے چہ دہ تہول پاکستان کبہی ڊیر زیات بارانونہ ہم شوی دی، رحمت ہم راغلی دے خو غریبو خلقو تہ ئے تکلیف ہم جوړ کرے دے۔ پچاس ہزار روپئ دا چہ شوی دی، دا ہم ڊیر دے، ولہ چہ خزانہ ہم خالی دی، سراج الحق صاحب بار بار وائی چہ یرہ خزانہ ہم خالی دہ او مونبر قرضداری ہم یو خو چہ پہ چا تکلیف راشی۔ پکار دا دی چہ یو کمیٹی جوړہ شی چہ دا درہ خلور ورخہ چہ کوم بارانونہ شوہ دی، خلقو تہ چہ کوم تکلیف جوړ دے، کچہ مکانونہ ہم تباہ شوی دی، خلق بہر اوسیری نوخہ داسی پکار دی چہ د ایم ایم اے حکومت نہ د خلقو چہ خہ توقعات دی چہ د ہغہ زرو حکومتونو مطابق چہ دا اوبنود لہ شی چہ یرہ ایم ایم اے حکومت د بل نہ بنہ دے نو مونبر دا امید ساتو چہ کوم ترقیاتی کارونہ ہم کیری، کہ ہغہ کبہی لبرغوندہ کمی راشی خودہ خلقو تہ چہ کوم تکلیف جوړ شوے دے بارانونو کبہی چہ دیکبہی مدد اوشی نوزہ ڊیرہ شکرہ ہم ادا کومہ او دا امید ساتو چہ د ایم ایم اے حکومت بہ ان شاء اللہ تعالیٰ دہ طرف تہ خیال اوساتی۔ ڊیرہ مہربانی، ڊیرہ شکرہ۔

جناب سپیکر: امان اللہ حقانی صاحب! ایم پی اے۔

مولانا امان اللہ حقانی: جناب سپیکر صاحب! دلته کبہی زہ دا خبرہ کول غوارم چہ تھیک دہ خہ آفتونہ خو آسمانی وی چہ خہ طوفانونہ او خہ بارانونہ شول لیکن دا سکولونہ چہ غورخیری او خلق ورکبہی تباہ کیری نوزہ دا وئیل غوارم چہ دا خو گزشتہ حکومتونو دا سکولونہ د ہغوی پہ حکومتونو کبہی جوړ شوی دی نو دا ناقص میتیریل چہ استعمال شوی دی او دومرہ غلط طریقہ سرہ ہغہ سکولونہ جوړ شوی دی، د ڊہ ڊ پورہ تحقیقات اوشی چہ دا ہم د ہغوی دہ قوم سرہ یو ظلم دے۔

جناب امیر زادہ خان: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: امیر زادہ خان صاحب۔

جناب امیر زادہ: شکرہ، جناب سپیکر۔ ابھی بارشوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حالیہ بارشوں سے اور بر فباری سے خاصکر، جو ملک کے بالائی علاقے ہیں سوات، کوہستان، کالام، شانگلہ اور دیر کوہستان، تو ان علاقوں میں سات

فٹ سے لیکر بارہ فٹ تک برف ہوئی ہے۔ یہ میں وہاں کے چشم دید حالات بتا رہا ہوں۔ جناب سینیئر وزیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم معلومات اکٹھے کر رہے ہیں تو گزارشات یہ ہیں کہ ان حلقوں کے نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے کیونکہ وہ ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو کیا مشکلات ہیں۔ (تالیاں) جناب سپیکر! میں خود تیس کلو میٹر پیدل چل کر آتا ہوں۔ میرے حلقے کے لوگ تیس، تیس کلو میٹر پیدل چل کر آتے ہیں۔ سات سات، آٹھ آٹھ فٹ برف ہے۔ بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹیلی فون، تو سارا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ میری گزارش ہے کہ حکومت اس کے لئے ریلیف پیکیج کا اعلان کرے۔

(اس مرحلہ پر حزب اختلاف کے اراکین ایوان میں واپس آ گئے)

جناب سپیکر: معزز اراکین اسمبلی!----

جناب بشیر احمد بلور: محترم سپیکر صاحب! اس پر کچھ بات کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں۔

جناب نثار صفدر خان: سر! پہلے اس کو Clear کریں۔ سینیئر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں۔----

جناب سپیکر: سردار ادریس صاحب، سردار ادریس صاحب۔

جناب محمد ادریس (وزیر بلدیات): الحمد للہ رب العالمین و صلواتہ والسلام علی رسولہ الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب سپیکر صاحب! سب سے پہلے تو میں آج دو معزز اراکان کو حلف لینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ یہاں صوبے میں بارش اور بر فباری ہوئی اور گزشتہ تیس سالہ ریکارڈ اس مرتبہ ٹوٹا۔ چونکہ میرا بذات خود ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں پر بر فباری ہوتی ہے اور بر فباری کے دوران لوگوں کو جن تکالیف اور جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے بالخصوص جبکہ وہ ذہنی طور پر اس بات کے لئے تیار نہ ہوں اور ہمیں حکومت کو اس بات کا شدت کے ساتھ احساس بھی ہے۔ اسی شدت احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ رات بھی چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اور اس سے قبل جو بھی صوبائی وسائل ہم بروئے کار لاسکتے تھے وہ ہم لارہے ہیں۔ روڈز کو کلیئر کرنے کے سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور پھر یہاں پر NHA اور دوسرے پرائیویٹ اداروں کے پاس جو بلڈوزرز تھے وہاں

روڈ صاف کرنے کے لئے عوام کو سہولت اور ریلیف دینے کے لئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر اپوزیشن واک آؤٹ کرے یا نہ کرے اس سے قطع نظر ہم وہ جو مثبت کام ہے حقیقت میں لوگوں کو جو ریلیف پہنچانے کے لئے ہے وہ ہم اپنے طور پر اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور انداز سے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری طرف سے کوئی کاہلی یا کوئی سستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم وہ تمام مسائل شدت سے محسوس بھی کرتے ہیں۔ پچاس ہزار روپے کا جو، جس طرح سینئر منسٹر صاحب نے ابھی وضاحت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس Spirit کے ساتھ نہیں دیکھا گیا ہے نہ اس کو سمجھ سکے ہیں، یہ پچاس ہزار روپے کا جو اعلان ہے یہ اشک شوئی ہے یہ ابتدائی ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح سے انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے ایک لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ حکومت اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی اور اس سلسلے میں اگر ہمارے ساتھ وسائل کی کمی ہوئی تو وفاق سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں زیادہ وسائل فراہم کئے جائیں۔ دیکھیں جو آدمی مر جاتا ہے اس کا نعم البدل پچاس لاکھ بھی نہیں ہے اور ایک کروڑ روپیہ بھی نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ازالہ کے لئے اور ان کی اشک شوئی کے لئے اور اس خاندان کی مدد کے لئے وہ پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ ہوتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ جہاں تک معزز رکن نے عمارت گرنے کے حوالے سے بات کی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو عمارتیں بنی ہیں ان کی بنیادیں انتہائی کھوکھلی ہیں اور ہم اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات کریں گے کہ آئندہ اس طرح کا کام نہ ہو اور بات وہیں آجاتی ہے کہ بقول ایک شاعر کے:

کی میرے قتل کے بعد تو نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کے کرتادھر تائیں، وہ پشیمان بھی اس پر نہیں ہو رہے ہیں جن کا کہ سابقہ کیا دھر ہے، قوم کے بچوں کے ساتھ انہوں نے سنگین قسم کی جو باتیں کی ہیں اور آج وہ عمارتیں گر رہی ہیں اور ہمارے بچے جو ان کے نیچے دب رہے ہیں اس پورے کلچر کو تبدیل کرنے کے ہم سب نے اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور قوم کے پیسوں کے، خزانہ کے، سرمایہ کے ہم امین ہیں، ہم امانت دار ہیں اور ہم سب نے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے

آگے بڑھنا ہے۔ جہاں تک دوسرے مسائل اور معاملات کا تعلق ہے تو ہم نے متعلقہ ڈی سی اوز کو اور ناظمین کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی ہیں، چیف منسٹر صاحب نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جہاں جہاں نقصانات ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر جمع کیا جائے۔ تاکہ ہم پھر اس کے لئے مؤثر طریقے سے اقدامات کر سکیں اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ گھر اگر گرا ہے تو وہ غریب کا ہی گرا ہے، کسی امیر کا نہیں گرا ہے اور چونکہ ہم سب کا تعلق غریب طبقے سے ہے اور ہمیں اس چیز کا شدت کے ساتھ احساس بھی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ غریبوں کی ہم سب مدد کریں گے، اپوزیشن والے بھی کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام حکومتی وسائل بھی اس سلسلے میں ہم بروئے کار لائیں گے۔ اس ضمن میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی غریب کی مدد نہیں کی یا کسی غریب کا گھر بننے سے رہ گیا ہے۔ ان شاء اللہ ذاتی حیثیت سے بھی اور سرکاری حیثیت سے بھی اس ضمن میں ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

جناب سپیکر: میرے خیال میں۔۔۔۔۔

حاجی قلندر خان لودھی: جناب سپیکر صاحب! یہ سردار صاحب نے جو باتیں کی ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ سارے ہاؤس والے، اپوزیشن اور حکومتی دونوں طرفوں والے اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن محض باتوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس بات کو Mix کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس عمارت کی بنیادیں کھوکھلی تھیں، یہ تھا اور وہ تھا۔ ہم پرائیویٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جن بیچاروں کے مکانات گرے ہیں، جن کے نیچے دب کر مر گئے ہیں اور گورنمنٹ کی بلڈنگیں فیمل ہوتی ہیں، ان لوگوں کو تو آپ پھانسی دیں جنہوں نے وہ غلط بنائی ہیں۔ (تالیاں) اس کو آپ کیوں Light لے رہے ہیں کہ نیچے مر گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہے، وہ چیز کیوں غلط بنی ہے؟ ان کو تو آپ قانون کے مطابق سزا دیں، جس کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو پرائیویٹ لوگوں کے لئے Request کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ایوان کیا آئے گا اس سے بڑی طاقت صوبے کی کیا ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے کم از کم ایک لاکھ روپیہ جو لوگ مر گئے ہیں، ان کے لئے اعلان کریں۔ سینئر منسٹر صاحب سے میری ایک Request ہے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ (تالیاں) اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم چندہ

دیں گے جی۔ میرا ان سے وعدہ ہے۔ سب سے زیادہ بوجھ یہ مجھ پر ڈالیں اگر گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں، کم از کم لوگوں کی دلجوئی کے لئے آپ پر پورے صوبے کی نظر لگی ہوئی ہے۔ آج پہلا اجلاس ہے، سب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں آپ مہربانی کر کے ایک لاکھ روپے کا اعلان کریں اگر گورنمنٹ کے پاس وسائل نہ ہوئے تو ہم چندہ دے دیں گے۔

جناب سراج الحق {سینیئر وزیر (خزانہ)}: مسٹر سپیکر صاحب! میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے تو کل ہمارے ماہرین معیشت کا اجلاس تھا، کوئی چار دن پہلے، انہوں نے بتایا کہ صرف صوبہ سرحد پر پندرہ بلین کی بارش ہوئی ہے۔ یعنی اگر حساب کتاب لگا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور پچاس ہزار روپے حکومت نے کیا ہے اور ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں اور یہ بات جو سردار صاحب نے فرمائی ہے، بالکل صحیح ہے کہ گھر کسی غریب کا ہی گرا ہو گا۔ مالدار، سرمایہ دار اور جاگیر داروں کے تو کچے مکانات ہوتے ہیں۔ ہم بالکل ان سے Agree کرتے ہیں۔ اتنا ہمیں وقت دے دیں کہ ہم ذرا حساب کتاب کر لیں۔ کہ اگر پچاس افراد ہیں تو ہمارے لئے ممکن ہے، ساٹھ افراد ہیں تو ہمارے لئے ممکن ہے اگر اسی طرح مسئلہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ عام ہوا ہے، فی الوقت میں اس تجویز کے ساتھ Agree کرتا ہوں۔ ایک لاکھ روپے کا ہم اعلان کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں وفات پا چکے ہیں۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: تھینک یو۔ معزز اراکین اسمبلی، موجودہ اسمبلی کے چوتھے اجلاس میں آپ کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حسب سابق میں آپ سب سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ بھائی چارے کی فضاء قائم رکھتے ہوئے اور قاعدہ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایوان کی کارروائی بہتر انداز میں چلانے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ معزز اراکین اسمبلی، آپ سب کے علم میں ہے کہ مورخہ 24 فروری 2003ء بروز پیر کو سینٹ کے لئے ممبران صاحبان کا انتخاب ہوگا، جس کے لئے اسمبلی بلڈنگ کو پولنگ سٹیشن قرار دیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس دن صبح نو بجے سے شام چار بجے تک ووٹنگ کے لئے اوقات مقرر کئے جا چکے ہیں۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ مذکورہ تاریخ کو اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں اور جیسا کہ آپ کو پہلے مطلع کیا جا چکا ہے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لئے

اپنے ساتھ اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ شناختی کارڈ ضرور لائیں۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ سیکورٹی عملے کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں اور حتیٰ الوسع کوشش کریں کہ اپنے ہمراہ وزیٹرز لانے سے گریز کریں تاکہ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ شکریہ۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: جناب سپیکر! سردار صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔

جناب سپیکر: جناب سردار صاحب، سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور صاحب۔

الحاج سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور: اعموذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ، ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ جناب سپیکر! میں تقریباً چوبیس پچیس سال سے اس قانون ساز ادارے کا ممبر وقفے وقفے سے آ رہا ہوں۔ طریقہ پہلے تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس بات کا نوٹس مل جائے اور اس میں رولز کا حوالہ بھی ہو، میں نے آج آپ کی خدمت میں نوٹس دیا تھا کہ رول 67 کے تحت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، تو اب چونکہ وہ بات ضروری ہے اور وقت بھی تھوڑا ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سپیکر! آپ تسلی رکھیں، میرا مقصد اپنی باتوں سے یہ ہر گز نہیں کہ کسی کی دل آزاری کروں۔ میرا مقصد محض یہ ہے کہ اپنی تکلیفات، اپنے خدشات اور اپنی مایوسیوں سے اس معزز ایوان کے اراکین کو آگاہ کروں۔ جناب سپیکر! آپ کو یاد ہو گا کہ 25 نومبر کو ہم سب نے حلف لیا تھا اور 26 نومبر کو بھائی پیر محمد خان کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے پشاور کلب اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پر آپ کی حمایت کریں گے اور اگر درانی صاحب کو ضرورت ہو تو ان کی بھی ہم ضرور حمایت کریں گے۔ اگرچہ بعض آزاد اراکین کے ملنے کے ساتھ آپ کی مجلس عمل خود کفیل تھی لیکن ہم نے آپ کو غیر مشروط طور پر یہ آفر دی تھی۔ اسکے بعد 29 تاریخ کو خود درانی صاحب کی دعوت پر ہم میٹنگ میں شامل ہوئے اور یہ سارے ممبر گواہ ہوں گے کہ ان کے سامنے درانی صاحب نے عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ، جو ساتھی ہیں، ہر ایک کے حلقے میں، ممبر کی رائے کو فوقیت رہے گی۔ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں۔

پارسائی کی جواں مرگی نہ پوچھ توبہ کرنی تھی کہ بدلی چھاگئی

سات تاریخ کو صرف ایک ہفتہ بعد، اس یقین دہانی کے بعد درانی صاحب ڈیرہ تشریف لائے اور اس وقت انہوں نے اپنی میٹنگ میں کروڑوں روپے کی منظوری کے اعلان کئے، مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہ تو باقاعدہ اطلاع ملی اور نہ بے قاعدہ اطلاع ملی۔ تو اس سلسلے میں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ مثالیں تو بہت ہیں مگر وقت تھوڑا ہے، اس کے بعد یہ تین مہینوں سے ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس میں ہم پس کر رہ گئے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم مجلس عمل کے ساتھ رہیں گے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ میں اس لئے آپ کے اور معزز ایوان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ اس کے بعد ہمارا ساتھ اس واسطے مشکل ہو گیا ہے کہ، ہمیں مجلس عمل سے گلہ نہیں، ہمیں درانی صاحب سے گلہ نہیں، وہ ایک شریف النفس اور اعلیٰ ظرف آدمی ہیں، ہمیں جمیعت علماء کے مرد آہن نے دیوار سے لگا کر پھلانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ (تالیاں) جناب سپیکر! میں آپ کو کیا بتلاؤں، میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جناب سپیکر! ایک مثال میں بیان کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہمارے ڈیرہ کے بھائی جو بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جناب سپیکر، مجھے ان چوراہی سالوں میں جتنی مایوسی ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی۔

وہ داغ داغ اجالا وہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں
یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لیکر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔

(تالیاں)

سپیکر صاحب! ہمارے ضلع میں ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ڈی ایچ او، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، محض ان کا نمبر سنیا رٹی پر بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ گریڈ 17 کا آدمی ہے اور اس کا 243 نمبر ہے اور یہ سیٹ 18 گریڈ کی ہے، اس 243 نمبر والے کو لگا دیا گیا، وہاں ڈی ایچ او بنا دیا گیا اور اس بندہ خدا نے وہ احسان چکانے کے لئے وہ بے ضابطگیاں کیں جن کی ساری تفصیل تو یہ بیان کریں گے مگر اخبار میں جو کچھ آیا ہے، اسکے متعلق یہ لکھا ہے کہ نہ اس میں ٹیسٹ ہوا ہے، نہ اس میں Codal formalization کوئی ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں ڈائریکٹر ہیلتھ کی منظوری لی گئی ہے اور جو نیا آرڈر ہے، اس میں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ناظم بھی ہوگا، ڈی سی او بھی ہوگا اور وہ ڈی ایچ او کی بھرتی کرے گا

لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو اور اخباروں میں بھی یہ سب کچھ آیا ہوا ہے۔ جناب سپیکر! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا مجلس عمل سے، ہم سیلوٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ (تالیاں) صاحب سپیکر! اس ایوان میں کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ اس ہاؤس کی نہایت منفرد اور تابناک روایات ہیں۔ میں ایک روایت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے آٹھائیس، انیس برس پہلے حزب اختلاف نے ایک قرارداد پیش کی تھی اور حزب اقتدار نے ایسے جاندار طریقے سے اس کی حمایت کی تھی کہ تمام ملک میں اسے سراہا گیا۔ پریس میں، نصر اللہ خان عزیز کا اخبار "ایشیاء" کا اگر 23 جون کا شمارہ آپ دیکھیں، اس کے عنوان میں لکھا تھا کہ "سرحدا سمبلی زندہ باد" اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو، اگر سننا نہ چاہیں تو اسے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: سردار صاحب! میرے خیال میں رول 67 کے تحت Personal explanation تو ہو گئی ہے۔۔۔۔۔

الحاج سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور: میں آپ کو۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں، مطلب آپ اس کو، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیں۔

“A Member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House but in this case no debatable matter shall be brought forward and no discussion shall be allowed thereon.”

الحاج سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور: میں تو یہی عرض کرنے والا تھا، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں، مطلب یہ ہے کہ بات تو آپ نے کر دی، Personal explanation اور وہ تو میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے نا۔ آپ اگر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ بولیں۔

الحاج سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور: نہیں، بس تھینک یو، مہربانی۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: جناب سپیکر! میں آپ کا تھوڑا سا نام لینا چاہوں گا۔

جناب سپیکر: نہیں، بالکل نہیں۔

جناب زر گل خان: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: پوائنٹ آف آرڈر مسٹر سپیکر۔

شہزادہ محمد گتاسپ خان (قائد حزب اختلاف): پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب سپیکر: نہیں۔

حفیظ اللہ خان علیزئی: میں پوائنٹ آف آرڈر پر، آپ کے سامنے جو غیر قانونی کام، ایک ہار اہوا بندہ، آپ کے ایم ایم اے کا ہار اہوا بندہ کر رہا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ چوبیس بندے انہوں نے لگائے ہیں، ہر قانون کی خلاف ورزی کر کے، میں جناب پوچھنا چاہتا ہوں ہیلتھ منسٹر سے کہ جناب، 17 گریڈ کا آفیسر کیسے لگایا گیا ہے وہاں پر؟ جو 18 گریڈ کا آفیسر تھا، نہ کوئی اخبار میں دیا گیا ہے اور نہ ہی کہیں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جناب۔۔۔۔۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: یہ میرے پاس Proofs ہیں۔

جناب سپیکر: جناب علیزئی صاحب،۔۔۔۔۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: ڈی آئی خان میں Unelected لوگوں کی بادشاہی ہے، جو بری طری ہار چکے ہیں، ان کی بادشاہی ہے اور ہر قانون کو پامال کیا جا رہا ہے جناب۔

جناب سپیکر: پلیز، پلیز، یہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، سردار صاحب نے رول 67 کے تحت نوٹس دیا تھا۔ آپ اس گرین بک کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: میں پوائنٹ آف آرڈر پر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں، آپ پوائنٹ آف آرڈر پر، آپ کو ان رولز اور قانون و دستور کے تحت اجازت ہے، اس سے اگر آپ باہر جائیں گے تو میرے خیال میں مشکلات پیدا ہوں گی۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: نہیں جی، ہم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کر رہے ہیں۔

جناب عبدالاکبر خان: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: پوائنٹ آف آرڈر پر بات کر رہے ہیں۔

Mr. Abdul Akbar Khan: Point of order, Sir! When you look to rule 67, "The Member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter shall be brought forward and no discussion shall be allowed. Janab Speaker, there is

no need of any notice under rule 67. Any Member can rise near his seat and he can give his personal explanation.

تحریر استحقاق

Mr. Speaker: Next item. Privilege Motions. Maulana Muhammad Asmat ullah Khan, MPA, to please move his privilege motion No. 3 in the House under rule 53 of the Procedure and Conduct of Business Rule, 1988. Maulana Muhammad Asmat ullah Khan, MPA, please.

مولانا محمد عصمت اللہ: جناب سپیکر صاحب! میری تحریک استحقاق یہ ہے، اس میں، میں نے لکھا ہے کہ
آج مورخہ 2 جنوری۔۔۔۔۔

(قطع کلامی/شور)

جناب سپیکر: آرڈر پلیز، آرڈر پلیز۔

مولانا محمد عصمت اللہ: 2 جنوری 2003 کو اسمبلی کے جاری گزشتہ اجلاس کے لئے آرہا تھا تو بمقام خیر آباد پبل پرائیوٹ ٹیکس کے لئے میری ذاتی استعمال کی گاڑی کو روکا جس پر ایم پی اے اور اسمبلی کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی میں نے اپنا تعارف بھی کرایا اور اسمبلی کا کارڈ بھی دکھایا لیکن متعلقہ عملے نے یہ کہہ کر کہ ٹول ٹیکس سے صرف فوجی گاڑیاں مستثنیٰ ہیں، مسترد کر دیا جس پر میرا اور معزز اراکین اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ اس پر مجھے بحث کی اجازت عنایت فرمائی جائے۔

جناب سپیکر: سردار محمد ادریس صاحب۔

جناب محمد ادریس (وزیر بلدیات): ڈی آئی خان کے جن معزز اراکین نے ابھی جو گفتگو کی ہے، اس کے حوالے سے میں Expect کر رہا تھا کہ اس طرح کی یہاں پر باتیں آئیں گی۔ جناب گنڈاپور صاحب نے ڈی ایچ او کے خلاف شکایت کے لئے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے لیکن۔۔۔۔۔

جناب بشیر احمد بلور: سپیکر صاحب! میں عرض کرتا ہوں۔۔۔۔۔

وزیر بلدیات: میں ذرا مختصر سی۔۔۔۔۔

جناب بشیر احمد بلور: کہ یہ ذرا بتائیں کہ رولز میں، اس طرح۔۔۔۔۔

Mr. Speaker: No cross talking at all. Sardar Idrees Sahib.

جناب بشیر احمد بلور: پھر ہمارے باقی ساتھی بھی ڈسکشن کریں گے۔

جناب سپیکر: سردار ادریس صاحب! میرے خیال میں پریویج موشن پر آجائیں۔
وزیر بلدیات: جناب! پریویج موشن پر میں آجاتا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سے ہم نے لوکل گورنمنٹ کمیشن قائم کیا ہے اور پھر جب سے ہم نے فائلیں کھولنا شروع کر دی ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا آ رہا تھا کہ معزز ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ناظمین ہیں، انکے وہاں پر متعلقہ جو لوگ ہیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ یہاں اسمبلی کے اندر جب ہم بات کریں گے، جب ان کے خلاف Action initiate ہونگے۔۔۔۔۔

قائد حزب اختلاف: میں ایک ریکویسٹ کرونگا کہ جناب منسٹر صاحب نے۔۔۔۔۔
وزیر بلدیات: تو اس کے خلاف اس طرح کی باتیں۔۔۔۔۔
جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: یہ Victimization کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے جناب انہوں نے۔ یہ Victimization کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔

جناب سپیکر: نہیں، آپ۔۔۔۔۔
جناب حفیظ اللہ خان علیزئی: یہ ہم Victimization سے نہیں ڈرنے والے۔
جناب سپیکر: اس پر ڈیٹ رکھیں گے۔
وزیر بلدیات: میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ۔۔۔۔۔
جناب سپیکر: پلیز آرڈر۔ سردار ادریس صاحب۔
وزیر بلدیات: میں اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔۔۔۔۔

Shahzada Muhammad Gustasip Khan (Leader of Oppodition): Mr. Speaker! Sir, please give me a chance. One chance.

جناب سپیکر: سردار ادریس صاحب آپ بیٹھیں۔
وزیر بلدیات: میں بات ختم کرتا ہوں۔
جناب سپیکر: گتاسپ صاحب، پلیز تشریف رکھیں۔

Leader of Oppodition: Sir! Then the Minister should sit first.
وزیر بلدیات: جناب سپیکر!۔۔۔۔۔
جناب سپیکر: تشریف رکھیے۔

Shahzada Muhammad Gustasip Khan: The Minister should sit first.

جناب سپیکر: سردار ادریس صاحب، آپ سے استدعا ہے کہ آپ Relevant point پر آجائیں۔ جو پریولج موشن ہے۔ آئٹم ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ آئٹم آئے گا تو اس پر ان شاء اللہ Detailed discussion ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی۔

جناب مشتاق احمد غنی: جناب! یہ اپنی گورنمنٹ کا الزام ملازمین پر ڈال رہے ہیں۔ یہ پھر ڈیبیٹ بن جائے گی، اس کو ختم کر دیں۔

جناب سپیکر: چھوڑیں ناں۔ شہزادہ محمد گتاسپ، پلیز۔

Shahzada Muhammad Gustasip Khan: Sir! He is talking irrelevant and say him to sit down.

جناب سپیکر: آپ تشریف رکھیے۔ یہ پریولج موشن پر ٹریڈری 'نچرز سے جناب سراج الحق صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے؟

جناب سراج الحق {سینیئر وزیر (خزانہ)}: یہ جو معزز رکن نے بات کی ہے، ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ متعلقہ اداروں سے بات کریں گے اور ایک رکن اسمبلی کا جو استحقاق مجروح ہوا ہے، ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کا موقع پھر نہ ملے جس سے استحقاق مجروح ہو۔ جی ہاں ٹھیک ہے اس وقت ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔

مولانا محمد عصمت اللہ: یہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ وہاں دیکھا جائے اس کو۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف فوجیوں کی گاڑیاں مستثنیٰ ہیں۔

جناب مشتاق احمد غنی: جناب سپیکر سر۔

Mr. Speaker: Is it the desire of the House that the privilege motion moved by Maulana Muhammad Asmat ullah Khan, MPA, may be referred to the concerned Committee?

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The privilege motion is referred to the concerned committee.

سید مرید کاظم شاہ: پوائنٹ آف آرڈر سر۔

جناب سپیکر: جی مرید کاظم صاحب۔

سید مرید کاظم شاہ: میں جناب،----

جناب سپیکر: اسی سلسلے میں ہے؟

سید مرید کاظم شاہ: نہیں سر، میرا ایک پرسنل سوال ہے۔

جناب سپیکر: اچھا، اچھا۔

ڈاکٹر امتیاز سلطان بخاری: پوائنٹ آف آرڈر۔ میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔

سید مرید کاظم شاہ: سر! میں آپ کی وساطت سے جناب،۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: وہ تو بات ہوگئی ناں۔ مطلب جو بھی ہے وہ کمیٹی میں ان شاء اللہ پھر Detailed

discussion ہوگی۔ مرید کاظم صاحب۔

سید مرید کاظم شاہ: میں آپ کی وساطت سے جناب گنڈاپور صاحب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ویکم

کرتا ہوں یہاں پر آنے پر بھی (تالیاں) اور انہوں نے جو بات کی ہے تو میں تمام ممبروں سے امید

رکھوں گا۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: مرید کاظم صاحب، پھر میرے خیال میں ڈیپٹی بن جائے گا بس Chapter is

-closed.

سید مرید کاظم شاہ: جناب سپیکر! میں۔۔۔۔۔

تحریر: التواء

Mr. Speaker: Next item. "Adjournment Motions". Mr. Ikram ullah Khan Shahid, honourable Deputy Speaker, to please move his Adjournment Motion NO. 7, in the House under rule 69 of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Mr. Ikram ullah Khan Shahid, honourable Deputy Speaker, please.

جناب اکرام اللہ شاہد: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر سر! میں آپ کی وساطت سے اس معزز

ایوان کی توجہ مفاد عامہ اور اہم نوعیت کے اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ

پاکستانیوں کی امریکہ میں رجسٹریشن ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں میں کافی پریشانی

پائی جاتی ہے، لہذا اس اسمبلی کی معمول کی کارروائی روک کر اس اہم مسئلے پر بحث کی اجازت دی جائے۔

سر! اجازت دے جی؟

جناب سپیکر: اجازت دے۔

جناب اکرام اللہ شاہد: سر! مسئلہ دا دہ جی چہی پاکستان یو آزاد اسلامی مملکت دے، یو خود مختار مملکت دے او پاکستانیان د اللہ پہ فضل و کرم سرہ آزاد دی خون سبا چہی زمونہ پاکستانیانو سرہ د امریکہ د لاسہ کوم ناروا او غیر انسانی سلوک کیری، خاص کر پہ امریکہ کنبہی نو ہغہ یو ډیر قابل مذمت او د انسانیت خلاف دے۔ مونہ د ہغہی مذمت کوؤ او دا وایو چہی خنگہ دامریکہی حکومت دا وئیلی دی چہی پاکستانیان بہ رجسٹریشن کوی، ہلتہ بہ گوتہی لگوی، فنکر پرنیس بہ ترہی اخلی او ہغوی بہ د ہغہی مراحلو نہ تیریری کوم چہی د ہغوی حکومت غواری نو مونہ دا وایو چہی کلہ یو امریکہی د پاکستان حدود تہ راغہی، ائیرپورٹ تہ راغہی نو ہغہ سرہ د ہم ہغہ سلوک او کرے شی، ہغہ د ہم د ہغہ قانون پابند شی کوم چہی پہ امریکہ کنبہی پاکستانیانو سرہ کیری۔ (تالیاں) دا زما تجویز دے او امید دے چہی معزز ایوان بہ دہی سرہ، ملکرتیا او کری۔ ډیرہ مہربانی۔

جناب عبدالاکبر خان: زما پہ خیال Admission تہ ئے واچوئ۔

جناب سپیکر: زما پہ خپل خیال دا خو فیڈرل سبجیکٹ دے۔

جناب مشتاق احمد غنی: جناب سپیکر! ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں ہیڈ فون نہیں دیئے گئے ہیں، ہمیں اس قرارداد کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ براہ مہربانی ہمیں ہیڈ فون دیئے جائیں تاکہ ہمیں یہاں کی جانے والی بات سمجھ آئے۔

وزیر بلدیات: یہ انہوں نے امریکہ کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں پاکستانیوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ چونکہ مرکزی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے Proper forum پر وہاں Take up بھی کیا گیا ہے اور بہتر یہی ہے کہ وفاقی جو سبجیکٹ ہے، وفاق میں رہنے دیا جائے، یہاں اس پر بحث نہ کی جائے لیکن ہم سب کو اس بات پر Concerned ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پر جو زیادتی کی جا رہی ہے، اس پر ہم سب کو تشویش ہے کہ یہ غلط بات ہے اور اس کا۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یعنی پراونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کرے اس سلسلے میں۔

جناب انور کمال: جناب سپیکر صاحب! کہ اجازت وی؟

جناب سپیکر: جناب عبدالاکبر خان۔

جناب عبدالاکبر خان: جناب سپیکر! جب ایڈجرمنٹ موشن کوئی ممبر آپ کے سیکرٹریٹ میں دیتا ہے تو یہ وہاں پر Process ہوتا ہے۔ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا تو اس ایڈجرمنٹ موشن کو یہاں ہاؤس میں لایا کیوں گیا؟ اور جب لایا گیا ہے تو Now it is the property of the House ہمیں اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ہمیں کون منع کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے (تالیاں) ہم نے ایک Matter اٹھایا ہے آپ نے کہا کہ اس پر Discussion کی جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پر Discussion کی جائے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ کیوں لایا گیا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ سپیکر کا چیئرمین نہیں ہے بلکہ Killing spot ہے۔ تو اسی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ For and against arguments ہوئے ہیں آپ خود سمجھ دار آدمی ہیں۔

جناب انور کمال: جناب سپیکر! اگر اجازت ہو۔ صوبائی حکومت مرکزی حکومت کو سفارش تو کر سکتی ہے۔ جناب سپیکر! ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو بات کہی ہے اگر آپ کو یاد ہو اسی سلسلے میں پچھلے اجلاس میں امریکہ میں جو رجسٹریشن ہو رہی ہے اسکے بارے میں ایک Call Attention بھی پہلے آچکا ہے اور جیسے ہمارے معزز منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے ان چار صوبوں کا معاملہ ہے اسلئے کہ امریکہ میں خالی وفاق کے بندوں کی رجسٹریشن نہیں کروائی جا رہی ہے۔ وہاں آپ کے صوبہ سرحد کے لوگوں کی رجسٹریشن بھی کروائی جا رہی ہے وہاں پر یہ پنجاب کے لوگ بھی ہیں وہاں پر سندھ کے لوگ بھی ہیں وہاں پر بلوچستان کے لوگ بھی ہیں۔ وہاں تمام پاکستان کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو افغان پالیسی میں اس وقت کی حکومت نے امریکن حکومت کا جو ساتھ دیا تھا، یہ صلہ اور یہ تحفے ہمیں اسکے جواب میں آج مل رہے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کی تمام امت مسلمہ کی عزت اور وقار کو ان لوگوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: تھینک یو، تھینک یو۔

جناب انور کمال: جناب والا! یہ ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیں اس پر آپ ہمیں بحث کی اجازت دیں اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں اگر انگریز وہاں مسلمانوں کی اس طرح تذلیل کر رہے ہیں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: اوکنہ داد ہاؤس Property دہ۔

جناب انور کمال: ہمیں بھی انگریز کو اسی طریقے سے اسی لائن میں پینتالیس منٹ کے لئے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کی بھی رجسٹریشن ہو۔ (تالیاں) وہ انکے ایف۔بی۔آئی۔ کے آدمی ہوں، چاہے انکے ایجنسیز کے آدمی ہوں اور جناب والا اسی سلسلے میں، میں نے ایک کال اسٹیشن نوٹس بھی دیا ہے اور وہ آپ یہاں پر امریکن قونصلیٹ، انکی سڑک کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان سڑکوں پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ امریکہ بہادر، جہاں اس نے بد معاشی کا تمنغہ لیا ہوا ہے، کبھی افغانستان میں وہ بمباری کر رہے ہیں، کبھی عراق کی باری آرہی ہے اور ہم یہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ اسکے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔ آپ دیکھیں جناب والا، امریکن قونصلیٹ کے سامنے جو سڑک گزر رہی ہے اس وقت تمام دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک قوت بن کر سامنے آرہا ہے اور انہوں نے تمام امت مسلمہ کو لاکار ہوا ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک سڑک اپنی نہیں کھلوا سکتے ہیں۔ آپ حیات آباد سے آئیں تو آپ صدر جاتے ہوئے تین میل کاراستہ ادھر سے اپنائیں گے اور تین میل کاراستہ ادھر سے اپنائیں گے کیا ہماری حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی؟ (تالیاں) کہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں انکو نوٹس دیں اور ان سے کہیں کہ اگر آپ اپنی سیکورٹی نہیں کر سکتے تو آپ ہمارا کیا کریں گے؟ آپ اور لوگوں کی کیا سیکورٹی کریں گے؟ انکو چاہئے، اگر وہ اتنے ہی ڈرپوک ہیں تو ان کے لئے کوئی علیحدہ مقام لیں۔ ان کو گورنر ہاؤس میں جگہ دی جائے یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں جگہ دی جائے۔ ہمیں کیوں انہوں نے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے؟ عام لوگوں کو کیوں مشکلات میں ڈالا ہوا ہے؟ جناب والا یہ آپ کی وساطت سے ہمیں صوبہ سرحد کی حکومت، اس پر ہائی کورٹ کی ایک دفعہ رولنگ بھی آچکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہائی کورٹ کی

بھی رولنگ اور Judgment پہ کوئی کسی کے سرپر جوں نہیں رہتی تو کم از کم صوبائی حکومت کو چاہئے کہ آج انکو یہ نوٹس دے یا تو وہ اس سڑک کو کھلوادیں اور یا پھر انکی رہائش گاہ یہاں سے منتقل کروادیں۔ میرے گھر کے ساتھ لیں میں انکی حفاظت کرونگا۔ انکو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن لوگوں کو تو کم از کم مشکلات سے دوچار نہ کریں۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: ڈپٹی سپیکر، اکرام اللہ شاہد صاحب۔

جناب اکرام اللہ شاہد: زہ د معزز ایوان د تہو لو دوستانو ڊیرہ شکر یہ ادا کوم چہ دا یو ڊیرہ قومی اہمہ مسئلہ وہ، د پاکستان د عزت، د پاکستان د وقار مسئلہ وہ او پہ دہ بانڈی چہ دوی کوم د تائید اظہار او کرو، زہ شکر یہ ادا کوم او دا تجویز کوم چہ د اسمبلی د طرف نہ وفاقی حکومت تہ دا یو سفارش او کیمے شی چہ دے سلسلہ کنبی د خپلہ پالیسی واضحہ کری او د پاکستانیانو سرہ چہ کوم ناروا سلوک کیری، د ہغی د تدارک د پارہ مناسب اقدامات داو کری۔

جناب سپیکر: مطلب، تہ ایڈجرنمنٹ موشن نہ پریس کوہی دا تجویز کوہی چہ Proper resolution د راشی۔

جناب ڈپٹی سپیکر: او جی۔

Mr.Speaker: Not pressed.

Shahzada Mohammad Gustasip Khan: Sir this can be converted into a resolution, if the House approves.

Mr.Speaker: Not pressed.

وہ Resolution کو Proper time پر لائیں گے۔

جناب ظفر اللہ خان: جناب سپیکر! ہمارے ایک محترم منسٹر ظفر اعظم صاحب جو Ten-in-one بھی ہیں وہ بھی گزشتہ ایک مہینے سے رجسٹریشن کے سلسلے میں امریکہ میں ہیں وہاں وہ پکڑے گئے ہیں یا غائب ہیں۔

(تہتہ)

جناب سپیکر: کون؟

جناب ظفر اللہ خان: ظفر اعظم صاحب ہمارے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: ان کے تو بھنوی انتقال کر چکے ہیں۔

جناب ظفر اللہ خان: ایک مہینے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ہم معافی چاہتے ہیں۔

جناب سپیکر: نہیں، ان کے تو بھنوی انتقال کر چکے ہیں۔۔۔۔۔

جناب ظفر اللہ خان: نہیں۔

جناب سپیکر: ان کے بھنوی انتقال کر چکے ہیں۔

جناب ظفر اللہ خان: کچھ پتہ کریں وہ یہاں سے گئے ہیں یا وہ لے جائے گئے ہیں؟ کچھ تو ہمیں انکا۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: ان کے بھنوی کا انتقال ہو چکا ہے اور کل چار بجے لاپچی میں نماز جنازہ ہوگی۔

جناب ظفر اللہ خان: پھر شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہئیں کہ خیریت سے ہیں۔

ڈاکٹر امتیاز سلطان بخاری: پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب سپیکر صاحب! میں آپکی توجہ۔۔۔۔۔

Mr.Speaker: Next Eng: Hamid Iqbal MPA, to please move his Adjourned motion No. 90 in the House Under rule 69 of the procedure and conduct of Business Rules, 1988.

Engineer Hamid Iqbal: Thank you, Mr Speaker.I request to give slight pause to the normal proceedings of the Assembly and pay special attention to this important issue.

I would like to draw the attention of this august House towards a very serious problem being faced by the people of Malakand Division. Due to non availability of funds with shydo Department for repair and maintenance of power houses,most of these have ceased to generate electricity and supply to consumers has been stopped.As a result locals of this hard area are unable to lead a normal life. I request this august House to resolve this issue immediately and on priority basis. Mr.Speaker! I would like to elaborate on the subject.

مسٹر سپیکر! د شیڈو دیپارٹمنٹ یا پراجیکٹ چي شروع شوې وو دا صرف او صرف د دے مقصد د پارہ شروع شوے وو زمونږه دا علاقې مالاکنډ ډویژن شویا نورې علاقې چي کومې Hard Areas چي دی، هلته کبني Natural Barriers چي واپدا هلته کبني Electricity supply نه شوه کولې۔ هغه وخت کبني یو Concept ورکړے شو۔۔۔۔۔

جناب خالد وقار ایڈوکیٹ: سپیکر صاحب! دی معزز ورور پہ انگلش کبني قرار داد
پيش کرو نو دا ٽولي خبري ئے په انگلش کبني او کري، مونبره پري پوهيرونه۔
جناب سپیکر: دا رولز اجازت ورکوي چي انگلش، اردو او پښتو کبني هم وئيلي
شي۔

انجینئر حامد اقبال: دا زما خپله خوبنه ده چي زه څه کول غواړمه جي۔

جناب سپیکر: پليز۔

انجینئر حامد اقبال: صحيح شوه۔

Mr. Speaker: Please Eng. Hamid Iqbal Sahib, carry on.

انجینئر حامد اقبال: صحيح شوه۔ دا چي کوم وخت کبني ئے ستارت کړے و نو د دي
دغه سره ئے ستارت کړے و و چي Welfare of the area or locals۔ په هغه
وخت کبني د دي نه دا Idea نه وه چي د دي نه به زمونږه ډيپارټمنټ ته څه
ريونيو راځي يا چي څه دغه کيږي خو دا Totally د گورنمنټ Responsibility
ده چي زمونږه د بهتري د پاره او د هغې علاقې د بهتري د پاره او د هغې Uplift
دا پراجيکټس شروع کړي و، دا په 1976 کبني شروع شوي دي او تر اوسه
پورې زمونږه علاقې د واپدا د بجلي نه محرومه دي۔ صرف د دي وچي نه چي د
شيدو بجلي هلته کبني شته۔ دوي اوس يونوي دغه شروع کړے دے۔ هغه دا دي
چي دا ئے Privatize کړي دي په مي کبني د دي ټينډري شوي دي او
contractors complete formalities provide کړي دي خو د هغې باوجود په
جولائي کبني ئے په دي باندي فنډ بند کړے دے چي بهي دا مونږه Privatize
کړي دي يا خو د هغوي له فنډ ورکړي يا د دا Private sector ته Handover
کړي چي هغوي د دي Lookafter او کړي او د بجلي چي کومه مسئله ده، نو دا د
حل کړي مهرباني جي۔

جناب مشتاق احمد غني: جناب سپیکر! مي پهلے بھي کهه چکا هون که همي سمجھ نهين آئي Headphones
همي Provide نهين کئے جا رہے هين۔ همارا يهاں بيٺنا فضول ہے Headphone provide کړيا

گيا توهاؤس ميں آجاؤنگا۔ Thank you very much sir۔

(اس مرحلہ پر معزز رکن ایوان سے باہر چلے گئے)

جناب سپیکر: اچھا میرے خیال میں ٹریڈری، سردار محمد ادریس صاحب آزیبل منسٹر فار لوکل باڈیز۔

Mr. Muhammad Idrees (Minister for Local Government): Sir, necessary funds will be provided and that will be allocated to resolve that issue, jee.

Mr. Speaker. Thank you. Not pressed.

انجینئر حامد اقبال: سر! فنڈز تو یہ Provide کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے Already privatize کئے ہوئے ہیں۔ یا نچ پاور سٹیشن ہیں۔ وہ سٹیشن یا تو Hand over کریں یا اس کے لئے کوئی لائحہ عمل طے کریں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: وہ Possibility کو دیکھیں گے نیا جس طریقے سے۔۔۔۔۔

انجینئر حامد اقبال: وہ تو Lost۔۔۔۔۔

جناب انور کمال: پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب سپیکر صاحب! میں آپکی توجہ ان معزز اراکین، جنہوں نے واک آؤٹ کیا ہے، ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ جب اپوزیشن کے تمام اراکین واک آؤٹ کرتے ہیں تو حکومت اس وقت یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ انکو واپس بلا یا جائے لیکن اگر ہمارے کوئی بھی معزز رکن چاہے وہ تعداد میں ایک ہو چاہے وہ تعداد میں دو ہوں آپ اپنی پہلی فرصت میں انکو ہدایات دیں۔ وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا تو اس وجہ سے آپ، ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایک بندہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ یہ کہہ کر کہ خیر ہے ایک بندہ ہے، اکیلا ہے۔ اکیلا نہیں ہے دیکھتے دیکھتے کوئی معزز رکن اس کا ساتھ دے گا۔ شکر یہ۔

جناب سپیکر: میرے خیال میں آئندہ کے لئے ایسی غفلت اسمبلی سیکرٹریٹ نہیں کرے گا اور آپکی تجویز معقول ہے بالکل یہ پارلیمانی روایات ہیں اور ان کو منانا چاہیے اور ہاؤس میں لانا چاہیے۔

جناب انور کمال: میں نے گستاخ خان کو کہہ دیا تھا کہ آپ بھی جائیں لیکن یہ اٹھتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟

جناب زرگل خان: جناب سپیکر صاحب! دا انور کمال خان چہی کومہ خبرہ اوکرہ جی تاسو ئے مناؤ کرئ، خو دا پارلیمانی لیڈران اوتی، بنہ دی چہی مونبرہ تہ دخبرو موقع ملاؤشی (تمتھے) حالانکہ مونبرہ وئیل چہی غونہ اوخو جی۔

جناب سپیکر: حامد اقبال صاحب۔

انجنیر حامد اقبال: سپیکر صاحب!۔۔۔۔

جناب سپیکر: مونخ لہ ختمول پکار دی یقین دہانی ئے درلہ درکرہ۔ بس کرئ۔

Engineer Hamid Iqbal. Sir, I will request them to either handover to the Government or to the private sector, so that the problem may be solved.

جناب سپیکر: ان شاء اللہ وہ Possibility کو دیکھیں گے جو بھی عوام کے مفاد میں ہوگا، وہی راہ اختیار کریں گے۔

Engineer Hamid Iqbal. Sir they have already submitted all the money, all the guarantees have been completed they have completed all the formalities.

جناب سپیکر: سردار صاحب! آپ اگر اس سلسلے میں Concerned ممبران کو بھی اعتماد میں لیں۔

جناب مشتاق احمد غنی: جناب عالی!۔۔۔۔

جناب عبدالاکبر خان: جناب سپیکر! میری ریکویسٹ ہے کہ Minister concerned جو SHYDO

کے منسٹر ہیں اور یہ آزیبل ممبر (تالیاں) یہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر۔۔۔۔

جناب سپیکر: میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ Not pressed۔

وزیر بلدیات: ایک تو یہ کہ میں اس فورم پر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں اور ہم اسکو Thoroughly

vet کریں گے۔ دوسرا اگر آپ کو پر اہلم ہے تو آپ سیدھا میرے پاس آسکتے ہیں۔ آفس میں بھی آسکتے ہیں

اور انشاء اللہ تعالیٰ We will resolve the issue there and then jee.

جناب سپیکر: مشتاق صاحب! مسئلہ حل ہو گیا ہے؟۔۔۔۔

سید مرید کاظم شاہ: پوائنٹ آف آرڈر سر۔

جناب سپیکر: میرے خیال میں کاظم صاحب انکو Encourage کرنا چاہیئے، سردار اسرار اللہ گنڈاپور۔

سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور: جناب سپیکر! مجھے خوشی ہے کہ میرے والد صاحب سردار عنایت اللہ خان گنڈا پور کل سے میرے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ اس حکومت میں اور میں اپوزیشن میں

(تالیاں)

تو بظاہر پیٹریاٹ کا Concept develop ہو رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں اپوزیشن میں بیٹھ کر ان شاء اللہ اس معزز ایوان کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔

(تالیاں)

توجہ دلاؤ نوٹس ہا

Mr. Speaker: Thank you very much .Next Mr. Anwar Kamal Khan MPA, to please move his Call Attention Notice No.155, under Rules 52 (a) of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Mr. Anwar Kamal Khan MPA.

جناب انور کمال: جناب سپیکر صاحب! میں آپکی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صوبہ سرحد میں عموماً اور پشاور شہر میں خصوصاً روز بروز Heroin Addicts کی تعداد بڑھ رہی ہے جس سے معاشرے کے دیگر نوجوانوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حکومت کی عدم دلچسپی اور ہیروئن کا استعمال لوگوں کے لئے مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔

جناب سپیکر! میں نے کال اٹینشن نوٹس 3 جنوری کو دیا تھا اور ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ آج 22 تاریخ کو اس سیشن میں کال اٹینشن نوٹس بھی آئیں گے لیکن چونکہ ایک اہم مسئلے کے بارے میں ایک Call Attention Notice میں نے دیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے اجلاس میں جہاں Law and order situation پر بحث ہوتی رہی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے رہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً دو تین چار پانچ مہینے گزر گئے ہیں۔ یہ اس حکومت کا بھی فرض ہے اور ہم بھی یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو نقصان یا جو نقصانات یا جو مشکلات ہمارے اس صوبے میں ہمیں نظر آئیں تو کم از کم ہم حکومت کے سامنے وقتاً فوقتاً انکی نشاندہی کریں اور ان کے تدارک کا کوئی بندوبست کریں۔ اس وقت جناب والا، تمام دنیا میں ہیروئن کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اور جس کا ایک خصوصی مرکز آپ کے پڑوسی ملک افغانستان اور پھر اس کے بعد آپ کے ملک پاکستان کی طرف، جہاں تمام دنیا کی نظریں ہیں کہ یہاں پر

پوست کی کاشت ہوتی ہے اور اسکے بعد اسکو ہیر وٹن میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نشہ ہیر وٹن کا جو ہے، اس کو اگر آپ باہر کسی ملک میں بھیجیں تو ہم تو خوش ہونگے کہ اگر آپ انگریزوں کو اس لعنت میں مبتلا کر دیں جنہوں نے ہماری زندگی بھی اجیرن کی ہوئی ہے۔ (تالیاں) لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس لعنت کو اپنے ملک میں تو روک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں یہ خدشات ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید ہیر وٹن کی عادی ہو جائیں اور میرے خیال میں اگر اس وقت آپ اعداد و شمار جمع کریں تو پاکستان میں خصوصاً اور صوبہ سرحد میں خاص طور پر جہاں پر آپ کے قبائلی علاقہ جات یا آپ کا افغانستان، ان کے قریبی جو ممالک ہیں، وہاں سے جتنی بھی ہیر وٹن آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ صوبہ سرحد کے عوام اور خصوصاً نوجوان طبقہ اس لعنت میں پھنستا جا رہا ہے۔ وہ اس کا استعمال روز بروز زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جناب والا، پنجاب سے بھی لوگ صوبہ سرحد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ میں حیات آباد میں رہتا ہوں۔ حیات آباد کی مارکٹس جو ہیں، وہ میرے گھر کے بالکل قریب ہیں۔ روزانہ میرے گھر کے سامنے ایک نالہ ہے، ایک پل ہے جو کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا گنداپانی اس میں سے گزرتا ہے تو آپ خود آکر دیکھیں کہ شام کے وقت یہ تمام Heroin addicts جو ہیں، وہ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کے فرنیچر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس حالت میں وہ اس نالے کے بیچ میں ان سردیوں میں پڑے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت کی قدر ہو تو میرے خیال میں وہ کم از کم اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ تمام دنیا جہاں پر حکومت ہر ایک چیز کا نوٹس لے رہی ہے، وہاں پر اس لعنت کا نوٹس حکومت کیوں نہیں لے رہی؟ ہمیں ان لوگوں کی بھی فکر ہے۔ وہ بھی ہماری اولاد ہیں، وہ بھی ہمارے اس معزز معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس معزز معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اچھے گھرانے کے، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں لیکن وہ ان منشیات میں مبتلا ہو کر آج آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود میری آپ کی وساطت سے حکومت سے یہ استدعا ہے کہ وہ اس کے لئے ایک Campaign شروع کرے اس لئے کہ Heroin

addicts جہاں ان کی ذات کو نقصان ہوتا ہے، وہاں پر یہی لوگ اس ملک میں، اس صوبے میں، اس علاقے میں کرائمز کا باعث بن جاتے ہیں جناب والا! آپ اس سے تنگ نہ ہوں۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں کال اٹیشن نوٹس ہے نا!۔۔۔۔

جناب انور کمال: میں دو منٹ میں اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ لعنت جناب والا، پشاور سے پھیل کر آج کل ہمارے علاقوں میں بھی پھیل رہی ہے اور ہماری Constituencies میں یہ بات، اگر میں اس چیز کا ازالہ نہ کر سکوں، اگر میں حکومت کے نوٹس میں یہ بات نہ لاسکوں تو میرے خیال میں، میں اپنے فرائض پورے نہیں کر سکوں گا۔ لہذا آپ کی وساطت سے میری آخری درخواست یہ ہے کہ حکومت اس پر خاطر خواہ توجہ دے، ان کے لئے ہسپتال بنائے۔ ان کے لئے ان کے Treatment کے لئے بندوبست کرے اور اگر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں تو ان کو فعال بنایا جائے۔ شکریہ، جناب سپیکر۔

جناب سپیکر: تھینک یو۔

محترمہ رفعت اکبر سواتی: ایک سیکنڈ، سپیکر صاحب۔ اس کے ساتھ صرف میں اتنا چاہتی ہوں کہ انور کمال صاحب نے جو بات کی ہے، اس میں ایک پہلو رہ گیا ہے کہ Drugs related HIV Aids جب آپ Drugs کی بات کر رہے ہیں اور میں اپنے ہیلتھ منسٹر صاحب کی طرف مخاطب ہوں، ابھی Recently جو سروے ہم نے Conduct کیا ہے، اس میں ہم آپ کو وہ دیدینگے کہ انہی ڈرگس کی وجہ سے ہمارے صوبہ سرحد میں جو HIV Aids کے Patients ہیں، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کے روک تھام کے لئے بھی بہت ضروری ہے اور یہ Drugs کی وجہ سے ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پلیز اس پر بھی توجہ دی جائے۔

مولانا محمد مجاہد خان الحسین: پوائنٹ آف آرڈر۔ ایک منٹ کے لئے۔

ڈاکٹر امتیاز سلطان بخاری: محترم سپیکر صاحب! میں آپ کی توجہ ریلوے حکام کی جانب۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: د د ہی نہ وروستو بہ موقع در کرم۔

مولانا محمد مجاہد خان الحسین: بہت ضروری ہے، ان کی تائید کرتا ہوں۔

ڈاکٹر امتیاز سلطان بخاری: میں آپ کی توجہ ریلوے حکام کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ پشاور شہر میں فقیر آباد ایریا ایک گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں پر دو ریلوے پھانک ہیں۔ میں آپ کو وہ واقعہ بتانا چاہتی ہوں

(شور)

Mr. Speaker: Order, order, please.

ڈاکٹر امتیاز سلطان بخاری: یکم فروری دن کے ساڑھے چار بجے جب میری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، مین پھانک پر پٹری کے اوپر دوسری گاڑی نے ٹکر لگائی۔ میں اپنی جان بچا کر اس گاڑی سے نیچے بھاگی اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ "گھاڑی را غلو گھاڑی را غلو" ساڑھے چار بجے کے قریب کا واقعہ ہے اور عین اس وقت لوگوں نے دھکا لگا کر میری گاڑی کو آگے کیا اور وہاں سے مال گاڑی گزر گئی وہاں پھانک پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ کیا یہ پھانک اسی لئے ہے کہ لوگ وہاں سے گزرتے جائیں اور ایکسٹنٹ ہوتے جائیں؟ یہ تو صرف ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ اس طرح کے کئی ایک حادثات پیش آسکتے ہیں۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ ریلوے حکام کو خبردار کیا جائے کہ آیا یہ پھانک کس لئے ہے؟

مولانا محمد مجاہد خان الحسین: جناب سپیکر صاحب! مجھے وقت دید بھئیے۔ ایک منٹ کے لئے میں وقت چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر: سردار محمد ادریس۔

جناب محمد ادریس (وزیر بلدیات): اس سلسلے میں ریلوے حکام کو آگاہ کر دیں گے۔ اس مسئلے کو ہم Seriously لیتے ہیں اور ریلوے حکام سے ہم اس سلسلے میں ان شاء اللہ ضرور Contact کریں گے۔

مولانا محمد مجاہد خان الحسین: میں انور کمال خان کی اس تجویز کی پر زور حمایت کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنی خبیث چیز شراب ہے، میرے خیال میں ہیر و سن اتنی نہیں ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے جی کہ وہ نالوں پر بیٹھے ہیں اور یہ کلبوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو صحیح کیا جائے شراب کے متعلق۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: جناب مرید کاظم صاحب آرڈر پلیز، آرڈر۔

سید مرید کاظم شاہ: جناب سپیکر صاحب! میں آپ کی وساطت سے حکومت سے ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک افسوس ناک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالمزیب خان عمر زئی پر یہ تیسرا حملہ ہو رہا ہے جی اور گورنمنٹ آج تک انکے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں کر رہی۔ اگر ہمارا ایک ممبر محفوظ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس صوبے میں اور کون محفوظ ہوگا؟ میں، جناب سینئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ممبر کو تو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تین حملے ہو چکے ہیں اور آج تک لوگ جلوس نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت افسوس ناک بات ہے۔

جناب سپیکر: جناب آئرہیل منسٹر فار ہیلتھ۔

جناب عنایت اللہ (وزیر صحت): جناب سپیکر! کال اٹینشن نوٹس، ستاسو اجازت دی؟

جناب سپیکر: جی۔ مختصر حکمہ چھی خلاصول پکار دی، بیا د مانعہ وخت دی او وروسٹو شوک نہ راخی۔

وزیر صحت: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ انور کمال خان یو ڈیری اہم مسئلہ طرف تہ توجہ راگر خولپی دہ۔ یقیناً ڈیرہ زیاتہ اہمہ مسئلہ دہ خو بنیادی طور باندی دا یو Cronic مسئلہ دہ، د مخکبئی نہ راروانہ دہ۔ د دی معاشری بدقسمتی دہ چھی زمونہ۔ خوانان Frustration د وجہ نہ یا د غربت د وجہ نہ یا د بی روزگاری د وجہ نہ، نور مختلف نفسیاتی مسئلوں د وجہ نہ د دی شکار شوی دی، نو یقیناً دا بہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر اور منسٹری آف ہیلتھ Jointly پہ دی باندی کار اوکری او کہ پہ دی سلسلہ کبئی د انور کمال خان سرہ خہ بنہ Proposals وی یا مسز رفعت اکبر سواتی صاحبہ نے بھی کہا، ان کے پاس بھی اگر کچھ Proposals ہوں، یاد دوسرے ممبران کے پاس ہوں تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ان شاء اللہ Joint strategy اپنائیں گے۔ Aids کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ابھی ابھی ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے میں کھٹمنڈو گیا تھا تو وہاں "کھٹمنڈو کال" کے نام سے ایک Communique issue ہوئی ہے، ہم اس کو بھی Implement کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو بھی سیریس لے رہے ہیں۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: Thank you. Next, Maulana Nizamuddin, M.P.A., and Mr. Ikramullah Shahid, Deputy Speaker, to please move their identical Call Attention Notices Nos.156 and 158 respectively,

under rule 52(a) of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Maulana Nizamuddin, M.P.A., please.

مولانا نظام الدین: سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میں معزز ایوان کی توجہ ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ پچھلی حکومت نے محکمہ تعلیم میں پرائمری سکولوں سے معلم دینیات کی آسامیاں ختم کر دی تھیں جو ہمارے بچوں کو مذہبی تعلیم سے دور رکھنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب جب کہ عوام نے اس صوبے میں ایم ایم اے پر بھرپور اعتماد کیا ہے، تو اس لئے معلمین دینیات کی تقرریاں پرائمری سکولوں میں فوری بحال کی جائیں تاکہ دینی تشخص برقرار رہے۔

جناب سپیکر: منسٹر فار ایجوکیشن، مولانا فضل علی صاحب پلیر۔

جناب فضل علی (وزیر تعلیم): سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

Mr. Speaker: Please, Ikramullah Shahid sahib, identical motion.

جناب اکرام اللہ شاہد (ڈپٹی سپیکر): سر! زما توجہ دلاؤ نو تیس ہم دہی سلسلہ کنبہ دہی او پکار دا دہ چہی پرائمری سکولونو کنبہ دہی پرائمری سطح باندہی دہ اسلامیات تو دہ استاد تقرری اوشی خکہ چہی دہ پرائمری سکولونو ماشومان تعلیم حاصلوی تر خوارلسم او ایم اے پورہی راشی خو ہغوی لہ کلمہ طیبہ او کلمہ شہادت نہ ورخی۔ نو دہ بنیاد نہ خو پورہی چہی دہ یو مسلمان دہ بچی بنیاد ہغہ مضبوط پہ اسلامی اقدارو باندہی ایبنودلہی شوہی نہ وی نو ہغہ ترقی نہ شی کولہی۔ دہ یو مسلمان قوم پہ حیثیت سرہ مونہ دا ضروری گنہرو، دہ ایم ایم اے حکومت لہ دا پکار دی چہی پرائمری سکولونو کنبہ دہ اسلامیات دہ استاد تعیناتی دوبارہ پہ پروگرام واچولہی شی۔

جناب سپیکر: تھینک یو۔

جناب فضل علی (وزیر تعلیم): سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر صاحب! دواہ سوالونہ چہی دی تقریباً یو شان تہی دی۔ فرق پکنبہی صرف دا دہی چہی نظام الدین صاحب دا وائی چہی مخکنبہی پہ سوات کنبہی دا سسٹم وو چہی پہ ہغہی کنبہی معلم دینیات بہ وو دہ پرائمری پہ سطح باندہی خو چہی کلہ سوات او ملاکنہ دہ صوبہ سرحد سرہ ضم شول نو چہی دلته کوم نظام دہی تعلیمی، ہغہ نظام ہلتنہ ہم رائج شو۔ لہذا ہلتنہ نہ ہغہ معلم دینیات ختم کرے شو۔ دویم دہ اکرام اللہ شاہد

صاحب خبرہ چپی کومہ دہ، نو ڊیرہ حدہ پورې مونبرہ د دې سرہ اتفاق کوؤ خود ابتدا نہ، مخکبني نہ دا پوستونہ نشته دې۔ فنانس منسٽر صاحب سرہ بہ مونبرہ کبنيو، دې باندي بہ خبرہ اوکرو ان شاء اللہ او چپی ممکن وی نو دا ڊیرہ بہترہ دہ، مونبرہ ہم د دې خبرې باقاعدہ تائيد کوؤ چپی زمونبرہ بچی د د ابتدا نہ هغې یو ماحول کبني وی چپی د هغوی دینی ذهن جوړی۔

Mr. Speaker: Thank you. Dr. Zakirullah Khan, MPA to please move his call attention notice No. 159, under rule 52 (a) of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Dr. Zakirullah Khan MPA, please.

ڈاکټر ذاکر اللہ خان: شکر یہ، سپیکر صاحب۔ "جناب سپیکر صاحب! میں آپ کی وساطت سے معزز ایوان کی توجہ مفاد عامہ اور اہم نوعیت کے اس مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ محکمہ تعلیم کے اساتذہ کے گریڈ سولہ سے گریڈ سترہ کو Move over کے ضروری تمام کاغذات سال 2000-1999ء میں کمیٹی کو ارسال کئے جا چکے ہیں جو تاحال محض التواء میں پڑے ہیں۔ لہذا کمیٹی کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پر نمٹائے اور مستحق افراد کو رولز کے مطابق فوری طور پر Move over دلویا جائے۔"

جناب سپیکر صاحب! پہ سرکاری نوکری کبني پروموشن او Mover over یو داسپی Attraction دے چپی پہ دیکبني سرکاری ملازم ڊیرہ پہ احتیاط سرہ او ڊیرہ ایماندارئ سرہ خپل فرائض ادا کوی۔ دا د دوی یو قانونی حق ہم دے نو پہ دې وجہ باندي چپی شوک د دې مستحق دی نو مونبرہ متعلقہ ڊیپارٹمنٹ تہ دا درخواست کوؤ چپی هغه خلقو تہ بلاخہ د تاخیر او بلاخہ د دغہ نہ خپل حق ورکری شی۔ شکر یہ جی۔

جناب سپیکر: منسٽر فار ایجوکیشن مولانا فضل علی صاحب۔

وزیر تعلیم: سپیکر صاحب! د سولہ او سترہ گریڈ چپی خومرہ حقدار استاذان دی او د هغوی کاغذات باقاعدہ دفتر تہ رارسیدلی دی پہ وخت باندي د هغوی جانچ پرتال یو با اختیارہ کمیٹی کوی، هغه شروع دی او اکثر پکبني شوې دی او کمیٹی د طرف نہ چپی آرڊر راشی نو باقاعدہ د هغې نوٹیفکیشن بہ جاری شی او امید دې چپی دا کارڈ مارچ او دوہ میاشتو پورې سر تہ اورسی۔

Mr. Speaker: Next, Ms. Naeem Akhtar MPA, to please move her call attention notice No. 161 under rule 52 (a) of Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Ms. Naeem Akhtar MPA, please.

محترمہ نعیم اختر: شکریہ، جناب سپیکر صاحب۔ "جناب سپیکر! یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر روز ڈیکتی اور انگوئے کے کیسز ہوتے ہیں اور شراب، ہیر و سن اور چرس کھلے عام بکتی ہے۔ اس لئے میں اپنی حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے گاؤں گجر گڑھی، ضلع مردان میں مستقل تھانہ تعمیر کیا جائے کیونکہ یہاں پر حکومت کی خالی زمین بھی ہے۔"

جناب زرگل خان: جناب سپیکر صاحب! دپارلیمانی لیڈر ہم ددی دغہ کپے دے او جی مونرتہ موقع نہ ملا ویری۔

جناب سپیکر: زرگل خان۔

جناب زرگل خان: مہربانی، جناب سپیکر۔

جناب سپیکر: مختصر، مختصر، دمانخہ وخت دے بالکل۔

جناب زرگل خان: د کومپ تھانرہ بارہ کبنی چہ دوئ دا دغہ پیش کرو جی، زہ دا خیز دغہ کومہ چہ پہ دہ صوبہ سرحد کبنی امن و امان چہ دے جی، ہغہ صرف پہ ہغہ خائی کبنی دے چہ کوم خائی کبنی تھانرہ نشتی او ہغہ صرف کالا دھا کہ دہ جی۔ نو خدائے تہ او گورئ، نورہ تھانرہ، دا شتہ تھانرہ دیری دی، نورہ تھانرہ خہ لہ جو روئ؟

جناب سپیکر: نادر شاہ صاحب، مختصر۔

جناب نادر شاہ: جناب سپیکر! گجر گرہی د جرائم او د کیتو سنتر دے۔ ہغہ خائی نہ چہ کوم بنہ بنہ او تعلیم یافتہ خلق وو، ہغوی د گجر گرہی د کلی نہ شفت کیری۔ عام خلق چہ کوم دی، پہ ہغہ کبنی محفوظ نہ دی۔ پہ ہغہ کبنی پوڈر باقاعدہ خرخیری او ہلتہ کبنی شراب ہم چہ کوم دے، ہغہ خائینو تہ راخی۔ مونرہ ہغہ خائی کبنی چہ کوم انتظامیہ دہ، د ہغوی پہ نوٹس کبنی دا خبرہ راوستہ لیکن د ہغوی پہ غور و نو دا خبرہ نہ لگی نو پہ دہ خبرہ بانڈی چہ کوم دی، خبرہ کول پکار دی۔

جناب سپیکر: سردار محمد ادریس صاحب۔

جناب محمد ادریس (وزیر بلدیات): یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس ضمن میں معزز رکن نے جو Indicate کیا ہے۔ انشاء اللہ وہاں پر ہم Extra-Police تعینات کریں گے اور پولیس سٹیشن کی تعمیر کے مسئلے پر ہم Seriously deliberate کریں گے اور ان شاء اللہ وہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ اور ان تمام جرائم کا خاتمہ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو Seriously طور پر لیں گے۔

جناب سپیکر: سارے صوبے میں۔

وزیر بلدیات: جی پورے صوبے کے اندر اور بالخصوص جو انہوں نے نشاندہی کی ہے۔

Mr. Speaker: Next, Next jee.

Mian Nisar Gul: Point of order.

جناب مظفر سید: جناب سپیکر، دی سلسلہ کبھی زہ ہم یو دوہ خبری کول غوارم۔

جناب سپیکر: جواب ور کرو کنہ، اوشو۔ میاں نثار گل صاحب!

میاں نثار گل: جناب سپیکر! اس ایوان میں، میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، سردار ادریس صاحب بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو، میرے دفتر آجائیں، ہم مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں انہیں اس ایوان میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مسئلے کی وجہ سے دس دفعہ ان کے دفتر آیا، دو دفعہ یہ موجود تھے اور آٹھ دفعہ یہ غیر حاضر تھے۔ خدا کے لئے میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا دفتر میں بیٹھا کریں کیونکہ جس طرح آپ یہاں کہتے ہیں کہ آکر مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے، مسائل تو حل نہیں ہونگے لیکن پھر تھوڑا بہت بیٹھنا ضروری ہے۔

جناب عبدالاکبر خان: پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب سپیکر: ان شاء اللہ پھر عبدالاکبر خان صاحب!

جناب عبدالاکبر خان: جناب سپیکر! اگرچہ رولز میں ممبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ پارلیمانی Traditions اور روایات ہیں کہ ہر صبح اجلاس شروع ہونے سے پہلے پارلیمنٹری پارٹیوں کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی بزنس ہے، 95% گورنمنٹ، پنچر سے بزنس آرہا ہے اور اپوزیشن نے

جو کال اٹینشن نوٹسز اور ایڈجرمنٹ موٹنز جمع کئے ہیں، میرے خیال میں یہ سوال تو یہ ان سے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور منسٹر صاحب جواب دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پراس کو اٹھانا اور ہم ممبران کا وقت ہے، وہ تو گورنمنٹ سائیڈ لے لیتی ہے۔

جناب سپیکر: تجویز معقول ہے انشاء اللہ آئندہ ایسا ہی ہو گا۔ Next, Mr. Muzaffar Said, MPA, to please move his call attention notice No. 163 under rule 52 (a) of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988. Mr. Muzaffar Said MPA, please.

جناب مظفر سید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر یہ، جناب سپیکر صاحب، عبدالاکبر خان صاحب خبرہ کوی کنہ۔ عبدالاکبر خان صاحب خبرہ کوی او دا زہ چہ خہ وایمہ نو دا د عبدالاکبر خان او دا د تہول ہاؤس خبرہ دہ لہذا اپوزیشن او د دوی یواخہ نہ دہ۔

جناب سپیکر: پلیز۔

جناب مظفر سید: "میں آپ کی توجہ ایک اہم اور مفاد عامہ کی نوعیت کے مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ محکمہ تعلیم میں کئی سالوں سے Major repairs کا کام ہو رہا ہے۔ ان سکولوں کے ناقابل استعمال میٹیریل کی Disposal کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ یہ ناقابل استعمال میٹیریل انہی سکولوں میں Dump پڑا ہے۔ ان سے بچوں اور اساتذہ کو سخت تکلیف ہے۔"

جناب سپیکر صاحب! پہ کوم سکولونو کبھی چہ د Repairs کار کیری نویوہ کمرہ یا پہ ہغہ کبھی ہغہ را او غور زولہ شی او د ہغہ میٹیریل پہ نورو کمرہ کبھی کبھی نو دہ شی۔ ہغہ یوہ کمرہ د ورا نولو پہ خائہ بانڈہ ہغہ نور خلق نور ہم پہ مشکل کبھی شی، بھر باران تہ ناست وی او خکہ خو جناب سلیم خان صاحب ہم نن خبرہ او کرہ، ہلتہ د ویری نہ خلق بھر ناست دے۔ نو زما درخواست دے چہ دغہ سکولونو والا تہ د ہدایت او کرے شی، محکمو تہ، متعلقہ EDOs تہ چہ د دہ پارہ خہ تھوس حکمت عملی اختیار کری، خہ طریقہ کار او کری چہ دغہ میٹیریل چہ دی، دا لری کری د سکولونو نہ، چہ استاذانو تہ او ماشومانو تہ د دہ تکلیف نہ نجات ملاؤ شی۔

جناب سپیکر: مہربانی۔

جناب جاوید خان مہمند: جناب سپیکر! دی سرہ Related خبرہ دہ جی۔

جناب سپیکر: مختصراً۔

جناب جاوید خان مہمند: خنگہ چي زمونږه مظفر سيد صاحب کومه خبره او کره، واقعي خبره ده چي په بعض سکولونو کښي Dump فرنيچر پراته دي او زمونږه د پرنسپل يا د هيډ ماسټر سره دا اختيار نه وي چي هغه مرمت کړي۔ چونکه هغوي کښي معمولي معمولي Repairing وي خو د هغې په وجه باندې زمونږ ماشومان د بنچز د ناستې نه محروم وي۔ په ټاټ باندې ناست وي يا ټاټ هم ورته نه ملاوېږي۔ زمونږه په شريکړه کښي يو سکول دے جی چي په هغې کښي د اووم، د نهم او د لسم ماشومان په زمکه ناست دي او هغې کښي تقريباً څلور کمري ستور داسې دے چي هغه ټول د سټاک نه ډک دے خو هغه چونکه Repairs غواړي او د Repairs اختيارات هغوي سره شته دے۔ لهدا زه هم د دې خبرې تائيد کومه چي زمونږ متعلقه محکمه د دې ته فوري توجه ورکړي او هغه کوم سټاک چي پروت دے چي دا Repairs کوي يا ورته د نوي سټاک بندوبست او کړي۔

جناب سپیکر: معزز وزير تعليم صاحب، مولانا فضل علي صاحب۔

وزير تعليم: جناب سپیکر! سکولونو کښي چي کوم Major repairs کيږي دا Public Works Department او د دې تهه کيدار ذمه داري وي چي دا ملبه اوچته کړي۔ دا د تهه کيدار ذمه دار وي۔ د دې نه علاوه که چرې دا صورتحال وي چي د سکول دوباره تعمير کيږي نو ADEO ته دو لاکه پورې اجازت وي چي دا ملبه اوچته کړي يا څه نوي کار وي، هغه په هغې باندې او کړي چي کوم سکولونو کښي داسې حالت دے، هغه متعلقه ADEO ته به مونږه د هغې باره کښي دغه ورکوو چي دا سسټم برابر کړي۔۔۔۔

شهزاده محمد گتاسپ خان (قائد حزب اختلاف): سر! میں ایک نکتے دو جو اٹھائے گئے، ان نکتوں کے بارے میں، ایک تو تعلیم سے متعلق تھا، معزز رکن اسمبلی مسز سواتی صاحبہ نے جو اٹھایا تھا کچھ گھی سے متعلق جو کروڑوں روپوں کی مالیت کا بنتا ہے، اس کے بارے میں محکمہ تعلیم کی طرف سے یعنی وزیر تعلیم صاحب کی

طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسرا ایک نکتہ اٹھایا گیا تھا جناب گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ 17 گریڈ کا آفیسر تعینات ہے EDO کی پوسٹ پہ جو کہ گریڈ 19 کی پوسٹ ہوتی ہے اور کئی ایک ایسی بھرتیاں کی گئی ہیں جو قاعدے کے خلاف ہیں اور سر حکومت قانون کو اس سلسلے میں پامال نہیں کر سکتی۔

جناب سپیکر: میرے خیال میں گستاپ صاحب، اگر آج اس سلسلے میں نوٹس دے دیں، Question دے دیں، Proper نہیں، آپ Senior Parliamentarian ہیں، پھر آپ رول 48 کے تحت Discussion بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا کریں اور۔۔۔۔۔

قائد حزب اختلاف: نہیں، یہ باتیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ This is the responsibility of the Government to answer such questions. حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیکیدار ذمہ دار ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح، یہ ایک اسمبلی ہے، Which is a very responsible forum جہاں پہ کروڑوں، اربوں روپوں کی بات اٹھائی جاتی ہے، اسے اتنا Light طریقے سے نہ لیا جائے۔

جناب سپیکر: میرے خیال میں تعلیمی محکمہ اسے تب Clearance Certificate دے جب وہ اپنا سارا ملہ اور کام مکمل کر لیں یہ تو ان کے اختیار میں ہے۔ تو اس طرف آپ سوچیں۔

جناب مظفر سید: جناب سپیکر صاحب! منسٹر صاحب جو جواب راکھو خوزہ داسپی وایمہ چپی منسٹر صاحب دیو تھوس خبرہ محکمہ تہ او کپری تھوس لائحہ عمل د اختیار کپری۔ حقیقت دا دے چپی کہ دوئی نہ وی، ہغہ بل چا تہ د ہدایت او کپری چپی دا خبرہ دہ لکہ پرا بلم دے۔

وزیر تعلیم: ہدایت بہ مونبرہ دپی بارہ کنبپی ور کوؤ، داسپی خبرہ نہ دہ۔ پاتپی شولہ د غور و خبرہ چپی کومہ دوئی او چتہ کپری دہ، ما ورسرہ بھر کپری دہ دا خبرہ۔

جناب سپیکر: تھینک یو۔ بنہ جی، صحیح دہ جی۔

The sitting is adjourned till 05:00 pm on Monday evening, the 24th February, 2003.

(اجلاس بروز سوموار مورخہ 24 فروری 2003ء شام پانچ بجے تک کے لئے ملتوی ہو گیا)

ضمیمہ

حلف وفاداری رکنیت

[آرٹیکل 65 اور 127]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

میں،.....، صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت

سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا:

کہ، بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی شمال مغربی سرحدی صوبہ میں، اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا:

کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے:
اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا:

[اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے (آمین)]

ضمیمہ نمبر 1

حلف وفاداری رکنیت

[آرٹیکل 65 اور 127]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

زہ _____ د زہ د اخلاصہ دا سوگند اوچتوم

چہ زہ بہ د پاکستان سرہ ربنیتیا عقیدت لرم او وفادار بہ یم:

او دا چہ د شمال مغربی سرحدی صوبہ د صوبائی اسمبلی د غری پہ
حیثیت بہ زہ خپل فرائض تر خپلہ وسہ د اسلامی جمہوریہ پاکستان د آئین، قانون
او د اسمبلی د قاعدو مطابق پہ ایمانداری ادا کوم۔ دا فرائض بہ ہمیش د
پاکستان د خپلواکی، سلامتیا، مضبوطوالی، بنیگری او خوشحالی د پارہ ادا
کوم:

او دا چہ زہ بہ د اسلامی نظریہ چہ د پاکستان د تخلیق بنیاد دے، د

برقرار ساتلو کوشش کوم:

او دا چہ زہ بہ د اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین برقرار ساتم او د دہ

حفاظت او حمایت بہ کوم۔

[اللہ پاک د زما مدد اور رهنمائی او کری۔ (آمین)]